

Diina Lislaam

Weebitannde yi'e Alqur'aana e Suuna burnaado
tagefo

Heblude:

Fahd ibn Hamad Al-Mubarak

جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات ، ١٤٤٥ هـ

ح

المبارك ، فهد

دين الإسلام تعرضه نصوص القرآن وسنة خير الأنام -
فلاتي(فولاني). / فهد المبارك ؛ جمعية خدمة المحتوى الإسلامي
باللغات - ط.١ - .الرياض ، ١٤٤٥ هـ

١٤٢ ص ؛ ١٤ × ٢١ سم

ردمك: ٠٠-٤٧-٨٤٤٢-٦٠٣-٩٧٨

١٤٤٥ / ١٨٩٣٢

شركاء التنفيذ:



المحتوى الإسلامي



رواد الترجمة



جمعية الربرة



دار الإسلام

يتاح طباعة هذا الإصدار ونشره بأي وسيلة مع
الالتزام بالإشارة إلى المصدر وعدم التغيير في النص.

Telephone: +966114454900

ceo@rabwah.sa

P.O.BOX: 29465

RIYADH: 11557

www.islamhouse.com

En fuddorii Innde Alla, Huubudo yurmeende, Heerordo yurmeende.

Hunorde

Denndaangal yettooje den woodanii Allah, hiden yetta Mo, hiden wallinora Mo, hiden insinoo e Makko, mooloren Mo boneeji pitaali men, e bondi golle men. Kala mo Allah fewni, ko on woni feewudo on; kala kadi mo O majjini, a hebantaa on gido dowoowo. Mi seedike wonde reweteedo tanaa Allaahu alaa, e wonde Muhammadu ko jeyaado Makko e Nulaado Makko. Yo Allah juulu e makko O hisna mo kisal duudungal.

Si dum feyyii:

Hiden hanndi fewndo hannde, e wallifannde newiinde ñogga, weebitiraynde diina Lislamu kan no ka moftiri. Foti ko ko yowondiri e fibnde, maa dewe, maa gollodal, maa neediiji e ko wanaa dum. Hara jangoowo nden wallifannde, hino waawi hebude miijo bangungo huubitungo fii diina Lislamu. Naatoowo diina kadi heba e mayre ruttorde aranere fii anndinagol ñaawooje e neediiji, yamiraadi e haadaadi. Nden wallifannde wona e juude noddanoobe Allah, nde nantinee e demde den fow, nde henndinee kala lamndotoodo fii diina Lislamu e kala naatoowo e diina kan. Kala mo Allah muuyani feewugol, feewira nde, nde wona daliila yottagol e yimbe ooñiibe e majjube.jj

Ado fuddagol deftere nden, ko maa wada laawi e dobtande de ballifo on rewata e mun, fii no faandaare mayre on newora hewtugol. Hino jeyaa e den date:

Weebitirgol kaa diina, immorde e nassuuji Alqur'aana e Sunna, hara wanaa e ko eggaa e yimbe, maa date falsafayankooje fii henangol jamaa on. Dum le ko fii piiji buy: tawde si haala Allah kan nanaanma, fanndaarene Makko nden gelaama, kala mo O muuyani peewal feeway ontuma, hujja on ñiiba e majjube saliiɓe ben, wano Allah daaliri non:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ...﴾ [التوبة: 6]

"Si gooto e sirkoobe ben hoddaniima ma hodtu mbo, haa o nana daalol Allah ngol, refti yottinaa mo nokku hoolaare makko nden". [At-Tawbah : 6]

Hino hasii ka hujja ronka ñiibirde eggaade e yimbe ben maa date falsafayankooɓe jillude ustaare e palje.

b- tawde Allah yamirii en yottinirgol diina Makko kan e wahayu on no jippori non,O yamiraa en sincugol date falsafa ko fewniren yimbe ben, sikken en battiniray dum e mabbe. Ko fii hondum himmirten ko en yamiraaka, tertoden ko yamiraɗen kon?

c- tawde kadi deya date noddirde e diina, wano yewtugol yaacna fii ooñande lunndiibe ben, rutta be; foti ka fibnde, maa ka dewe, maa ka jikkuuji, maa ka neediiji, maa ka faggudu maa huutorgol wennje miijo; wano yawtugol fii tabintinde woodeede Allah - O toowii e ko tooñube ben wi'ata Mo - maa yewtugol fii ko waylaa kon ka Linjiila e ka tawreeta e deya Defte diina, banngina ko duytaa e ko bonnaa e majje, dum fow hino gasa wonnde naatirde bannginirgol pibe bonde lunndiibe ben, hino gasa wonnde kadi njooba pinal juulɗo -e hoore

non o lorotaako e waaseede anndude dum - Kono dum waawaa wonnde tuuginorde e fokkitannde nde noddirgol fjaade Allah darato.

d- tawde kala naatiroobe lislamu e dee date yawtude, wanaa tun hara ben ko juulbe tigiri. Goddo no naatira e kaa diina sabu weleede mo huunde heeriinde nde o fensitanaa, hara non o gomdinaa piiji goo e diina kan; dum ko wano weleteedo fii heeroriidi faggudu Islaamu ndun, kono hara ontigi gomdinaa fii laakara, maa hara o gomdinaa woodeede jinna e seytaane ekw.

Sugu ben yimbe, lorra mabbe on e Lislamu, hino buri nafa mabbe kan.

e- tawde Alqur'aana hino battina e pittaali e berde. Si feere accaa hakkunde mayre e majje, pittaali laabudi din noototo nde, di toowira yande gomdinal e gomdal. Ko fii hondum heedaten hakkunde mayre e majje?

Wata jaabondiral, maa tippugol e ko fewndii, maa laawi yawtudi naatu e fii weetitugol kaa diina. Yo ka weebitire no ka jippori non, jokka dum e laawol makka on ka yewtugol yimbe ben, yaarana be doy-doy e ñiibal ngal.

Hino habboraa wallifannde nden newagol binndol, e ñoggugol fotde baawde, fii no nde newora yoobagol hakkunde yimbe ben.

Si en yedaama gaynugol dee golle, en muulii nde eggande ujune sappo mjiliyon, den hewtii e juude ujune sappo yimbe, gooto e teemedere mabbe tun gomdina Aayeeje e Hadiiseeje mayre, ko heddii kon yedda dum. Kono nden wootere e teemedere nden fewtita en hino yacoo hino yankinii, hino dabba gomdinal e gomdal, kori hida anndi, an musidde tedduo, wonnde ben don hino holli naatugol yimbe ujunere teemedere ka diina Lislamu? Dum don non,

sikke alaa wonnde ko golle mawde. Tawde ko nde Allah fewnirta gorko gooto sabu maa, buri moyyannde ma e diini geloodi bodeeji dīn.

Wurin hay si gooto e ben noddaabe nootaaki, be fow fow be duurnike diina kan, haray enen en tottii hoolaare nden, en yottinii kadi nulal ngal Allah nuli en ngal yottingol.

Himme noddanoobe Allah ben, wanaa bee tun no yimbe ben yanirane fii diina kan, maa wano Alqur'aana jooportii fii rerdingol e peewal mabbe:

﴿إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾

﴿النحل: 37﴾

"Si a rerdii e peewal mabbe, [anndu] pellet, Allah fewnataa on Mo o majjini". [An-Nahl: 37].

Himme mabbe ko haani wonnde, ko ko Annabiijo mabbe jom kisiyee on himmirnoo kon, mo jom mun daalani :

﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ

رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ...﴾ [المائدة: 67]

"Ko an yo Nulaado, yottin ko Jippinaa kon e maada immorde ka Joomi maa, si a wadaali, haray a yottinaali nulal Makko ngal. Allah ko dadndoowo ma e yimbe ben." j[Al Maa'ida: 67].

jHiden toroo Allah nde woneten en fow men, wallindiroobe e yottingol diina Makko kan faade e yimbe ben fow, e nde O wadata en wallitorbe moyyere, noddanoobe nde, salotoobe sakkoo bone. Ko Allah buri andude. Yo O juulu e Annabiiji men on Muhammadu.

Janngoowo teddufo,

Ndee defetere doo, ko anndinaynde ma diina Lislamu, no newori huubitiri banng'e mun fow (fibnde mun, neediiji mun, sari'aaji mun, denndaangal tinndinooje mun).

Mi etijke emayr e jokkugol piiji buy:

1- Ko yewtugol fii bindeeje diina den tun.

2- Rabbindinoo fote baawde am.

3- Weebitira Lislamu on, tippude e bullitirde makko den (woni Alqur'aana, e Hadiiseeji jom kisiyee on) fii no janngoowo on hawwira e bullitirde lislamu tigi den o itta heen e tinndinanle ko alda e heeda.

Musidfo teddufo, tuma hawwudaa e lannoode ndee deftere, a taway a hebi ko laabi e diina Lislamu kan, hebaa no beydoroyaa e anndugol kaa diina.

Ndee deftere nde sutidaa, ko fewtunde yimbe duudube: hida fewti taha, faalaabe naatude ben Lislamu, be annda fii piibe e neediiji e ñaawooje makko.

Ko non kadi nde fewtiri kala faalaado anndugol diina, teñtini diinaaji di yimbe ujune miliyonji woni naatude e mun. Hinde fewti kadi weldiibe Lislamu ben yidube yoga e jikkuuji makko, Hinde fewti

fahin, aybe e lunndiibe Lislamu ben be tawata haawnaaki hara ko majjeede be diina kan, woni sabu ayrugol ka aña ka.

Hino jeyaa e ben be ndee deftere fewti kadi : juulbe hatonjimbe firtangol yimbe ben diina Lislamu kan. Haray ndee deftere hino wallitora be dum, nde hoynana be laawol ngol.

Si tawii non a joganooki miijo e fee Lislamu, a taway an jangoowo teddufo, wonnde hida hanndi e ndee wallitorgol jangugol ndee deftere, fii anndugol ko wadaa e mayre. Wata dum aanine, a hebay lowe Islaamu duudufe jaabotoode lamnde maa.

1- Konngol Tawhiid (La Ilaha Illa Allah)

Tugalal himmungal ngal ka Lislamu, ko konngol tawhiidi ngol, mahdi Lislamu ndin mahotaako baawo maggal. Ko ngal woni konngol aranol ngol naatoowo Lislamu haani feññinirde gomdinal mun, banngina fibnde mun e noone kala. Ko firti La Ilaha Illa Allah?

La Ilaha Illa Allah hino firta:

- Alaa tagudo winndere nden si wanaa Allah.
- Alaa jeydo e pirlittoodo ndee tagoore, si wanaa Allah.
- Alaa reweteedo hanndudo e dewal si wanaa Allah.

jjKo Allah woni ko tagi ndee winndere yaajunde, labaande, ñeñaande. E dii kammuuli e koode mun toowude, yahrayde yaadu diggundu, e dillere yoodunde. Ko Allah tun jogitii ñin. Ndi leydi kadi e pelle mun, e ndantaaje mun, e candi mun, ledde mun e tuteteeriiji mun, henndu mun e di'e mun, njoondi mun e maaje mun, hoðu be ndi e jinndoobe e mayri fow ko Allah tagi woodini.

Alla daali ka Deftere Makko teddunde:

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ
مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ
وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾﴾ [يس: 38-40]

"E naange ngen, hinge doga haa e ñiibirde magge; dūm ko ebboore Fooludō, Anndudō On. E lewru ndun, Men eb̄bani ndu jipporde, haa ndu wad̄tinira wa baajal tamaro kinngal. Wanaa naange ngen woni ko haanini hewtitagol lewru ndun, wanaa jemma on woni ko aditotoo ñalorma on; kala majji non, ko e laawol mun woni dogude". [Yaa-Siin : 38 - 40].

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَوْتَبْتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾
 تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ
 جَنَّتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾﴾ [ق: 7-10]

"Leydi ndin kadi, Men weerti ndi Men werlii e mayri pelle, Men fud̄ini e mayri kala nooneji [puḍi] wood̄ud̄i, fii tasakuyee e waaju wonannde kala jeyaad̄o ruttotood̄o. Men jip̄piniri kadi ndiyam barkinaad̄am ka kammu, Men fud̄iniri ḍam gese e gabbe soñeteede, e lad̄de tamaro juutude wondude e piindi fawondir̄ndi". [Qaaf : 7-10].

Ko dūm woni tagu Allah tedduḍo toowud̄o On. O wad̄u leydi ndin ñiibundi, O heertiniri ndi ko pood̄ata haajuuji nguuree ḍin. Huunde beydotaako sakko dillannde mayri on satta, huunde d̄uytotaako e mun, sakko wuurbe e mayri ben wjona e diwjde. Tawde huunde kala ko eb̄baande ka Makko.

Men jip̄pinir e kammu ngun, ndiyam laabuḍam, ḍam nguurd̄am wjonaata baawo mun.

﴿... وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴿٣٠﴾﴾ [الأنبياء: 30]

"Men wadi umjmaadee ndiyam dam kala huunde wuuru nde". [Al-Anbiyaa' : 30].

O yaltiniri dam puɗi e dimɗe, O yarniri dam neemoraadi e yimbe, O hebiliri dam leydi ndin ko mara dam, O udditiri dam bulli e candi.

O fudiniri dam gese labiraade ledɗe mun e puɗi mun, e piindi mun, e ɗari mun. Ko Allah labini ko O tagi kon fow, O fuddori tagugol neddo on e loopal.

Neddo mo Allah adii tagude on, ko baaba Aadama (yo o his). O tagir mo e loopal, refti O fotini mo, O mbaadi mo, O wutti wonkii kin e makko, hooti O tagiri debbo makko e makko tigiri, refti O wadi dammbe makko den, immorde e ndihal hoykal.

Allah daali: "

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾﴾ [المؤمنون: 12-14]

"Gomdii Men tagrii neddanke on immorde e lasili loopal. Refti Men wadi mo tobbere [maniiyu] e nder ñiibirde hubindiinde. Refti Men Tagi tobbere nden heddere, Men Tagi heddere nden huyre, Men Tagi huyre nden yi'e, Men holtini yi'e den teewu. Refti Men fuddanii mo Tagu goo. Allah mawnii, moy'yo tagudo". [Al-Mu'minuun: 12-14].

O daali kadi:

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰ أَنْ تُبَدَّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشَأَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾﴾ [الواقعة: 58-61]

"On yi'ii ko maniiyooto don ko ? Ko onon tagata mo? Kaa ko Menen woni tagoobe [dum]? Ko Menen hoddiri maayde nden hakkunde mon. Men wonaali ronkinteebe e wattitugol yeruube mon, Men fuddira on e ko on anndaa". [Al-Waaqi'ah : 58-61].

Taskii no Allah tagir maa non, a taway ndin njubbundi ñeñaandi hino haawnii, ndi tawata ko seedaabe tun anndata fii dum, wanaa feere kan be gayna fii mun. O ko nokku dolirido ko ñaametee timmudo on: fuddora ka hunnduko, taya haa wona tosokon haa modugol dum newoo, refti o modira dum lookoyere nden, weddo lonngere faade kojumbol damal takamdi uddito nden demngal coorumjjbal nagl uddoo lonngere nde fa*a ka fulukuru rewde enndu mumsuru dillooru dille ngilngng. To fulukuru to golle dolgol ngol jokkondira ka reedu ton, haa ñaametee waylo wonta ndeelam damal uddito toon e

fulukuruon faade tekteki, to golle dolgol ngol yawtinta waylude rigi neesu faade e rigi gonoowo lobba wonande banndu ndun faggora. Dum fewra ka tetekki fii no golle dolgol timmira, ñaametee on e ndii mbaadi lobbiri de foodete faade tekteki jillondira e yiyam dam. Dum ko unirde timmunde fii yiilorde yiyam dam, juutunde mettunde anndannde, si a wi'ii hida fonta nde, a taway hinde buri ujune kiloo meeterji jokkondirdi haa yiitidoi e pompirde hakundde ganndiraade bernde nden. Nden nde haabataa nde tampatah feyyinirgol don yiyam dam.

Hino kadi kuppudum fii foofaango ngon, nayabo on fii dadi din, jowabo on fii ko yaltini goppe den, jeegabo e jeedidabo e sappabo immorde e din beydotoden e mun ñalnde kala, tawde ko majjaden e majji kon hino buri ko annduden kon. Ko hommbo tagirta oo neddanke e ngal nyeenyal Mbo wanaa Allah?

Ko dum wadi si tawii ko buri bonnde e bonnereiji din aduna, ko wadtidugol e Allah yeruujoo, hara non ko Kanko tagu maa.

Udditu bernde maa, yañña fonndo maa, taskodaa e ñeeñal Allah ngal e nduu henndu ndu foofataa, ndu naatirana maa nokku kala, hara ndu jillaa ko muusinta gite. Hara ndun tayondir e maada ko foti e famdude, a maayay don. Ndiyam dam yarataa dam kadi, e ñaametee maa on, e neddo mo yidudaa on, e leydi ndi yahataa e mun ndin, e kammuuli di yeewataa din, e kala ko gite maa den yi'ata e kode yi*atah e tagaadi din, mawni famdi fow ko tagu Allah, Tagoowo, Anndudo.

Miijitagol fii tagu Allah ngun, hino anndina en mawngu e kattal Makko. Hino jeyaa non e ko buri majjude e yimbe ben, yi'oobe nguu tagu ñeeñaangu hino yubbondiri, tinndinanyngu ñeeñal e kattal

wellitungal, e hoore dum, be ronka gomdinde tagudo dum On. Allah daali:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾﴾ [الطور: 35-36]

"Kaa be tagira baawo tagudo? Kaa ko kambe woni tagube ben? "Kaa (ko) kambe tagi kammuuli din e leydi ndin? Ko woni kon, be yananaaka". [At-Toor: 35-36].

Allah seniido On, haqqille hisude den anndiray Mo nii Kanko, ko aldaa woo e anndinagol. Tawde O woodinii ko wallitoo e dum, fewta Mo, si wanaa tun, din majjinii wodibe ben e Makko.

Ko dum wadi si be hebii bone maa ñawu, maa annde sattunde anndinnde ka njonndi e ka maaje, be fewta Allah kisan, hara hibe dabɓira Mo faabo yaltugol e ko be yani e mun. Allah non hino nootoo biliido, si ontigi noddii Mo, O huncana mo annde.

Oo tagudo Mawdo, Himo mawni buri kala huunde. Wurin O ebbindirtaake e huunde e ko O tagi kon. Ko Kanko woni Mawdo Mo mawngu Mun ebbindirtaake e gooto, ngu gooto kadi hubindotaako anndal mun. Siforiido toowal e dow tagu Mun ngun, ka dow kammuuli Makko.

﴿... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾﴾ [الشورى: 11]

"Hay huunde yerondiraa e Makko; ko Kanko woni Nanoowo, Yi'oowo On". [Ash-Shuuraa: 11].

O nanndaa e huunde e tagu Makko ngun. Ko miijotodaa fii Makko, wanaa non woniri.

Kanko seniido On Himo yi'ira en ka dow kammuuli Makko, enen kan en yi'ataa Mo.

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأَنْعَامُ: ١٠٣]

[103]

"Giide den hubindotaako Mo, Kanko Hubindoo giide den. Ko Kanko woni Newiido, Humpitiido On." [Al-An'aam: 103].

Wurin so'irde men den hattantaa fii yi'ugol Mo aduna doo.

Gooto e Annabaabe ben dabbudo yi'ugol Allah, on woni Annabi Muusaa (yo o hsi), fewndo Allah yewtidunoo e makko ka fello Tuuri. O maaki: "Joomi, hollam mi ndaare!", Allah daalani Mo:

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي إِلَيْكَ قَالَ لَنْ
تَرِنِي وَلَكِنِ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ
لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: 143]

"A yi'ataa lam ; kono ndaaru fello ngon : si ngo ñiibii e nokku maggo, aray ka yi'aa lam". Nde Joomi makko feeñannoo fello ngon, O wadti ngo diggu ngo, Muusaa yani fad'daa. Nde o diwtunoo, o maaki : "Senayee woodanu Ma! Mi tuubanii Ma, min ko mi arano e gomdimbe ben". [Al-A'raaf: 143].

Ngon fello mawngo toowungo don muncitii, ngo waylorii feeñugol Allah ngol e maggo. Ko honno neddo kan waawirta dum e dooloy mun hakindii koy!

Hino jeyaa e sifaaji Allah, wonnde ko O hattando kala huunde. "

﴿... وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ

عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾ [فاطر: 44]

"Alla goddum ko no ronkina Alla ka kammuuli maa ka leydi". [Faatir: 44].

ko e Makko nguurndam e maayde ngoni. Ko tagaa kon fow no hatonjini e Makko, Kanko non O hatonjinaa e gooto e mabbe. Allah daali:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾﴾ [فاطر:

[15]

"Ko onon yo yimbe, ko onon woni hatonjimbe e Allah ben. Allah kan, ko Kanko woni Galo, Yettiniido On". [Faatir: 15].

Hino jeyaa kadi e sifaaji Makko, anndugol hubindingal kala huunde:

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعَلِّمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [الأَنْعَام: 59]

"Ko ka Makko woni cottirde ko wirnii, anndaa dum si wanaa Kanko. Himo Anndi ko woni ka njorndi e ka maayo. Kaakol yanataa si wanaa hara himo anndi fii maggol, wanaa abbere ka nibe leydi, wanaa keccol wanaa yoorungol, si wanaa no e deftere banngunde". [Al-An'aam: 59].

Himo anndi ko demde men wowlata, e ko tere men huuwata, wurin Himo anndi ko berde men soomata:

﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ [غافر: 19]

"Himo anndi janfa gite, e ko berde den suufi". [Ghaafir:19]

Allah ko yellitiido e men, humpitiido fiyakuuji men. Huunde suudaaki Mo ka leydi maa ka kammu.O welsindaaki, O yejjitataa, O daanotaako. Allah daali:

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: 255]

"Allah, alaa reweteedo si wanaa kanko, wuuroo ñiibudo. Nojre nanngataa Mo, wanaa kadi doyngol. ko Kanko jeyi kala ko woni ka kammuuli e ka leydi. Ko hommba woni on tefoowo ka Makko, si wanaa e dujaye Makko? Himo anndi ko woni yeeso maɓɓe, e ko woni baawo maɓɓe. Be huɓindotaako huunde e anndal Makko ngal, si wanaa ko O muuyi. Jullere Makko nden no yaaji buri kammuuli din e leydi ndin. Reenugol di aaninaa Mo. Ko Kano woni Toowudo, Mawdo On". [Al-Baqarah: 255].

Himo heerori sifaaji timmal welliadi, di jillaa ella e ustaare.

Himo heerori inde e sifaaji toowal. Allah daali:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ

سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: 180]

"Ko Allah woodani inde burde moyyude den. Noddiere Mo de, tertodon ben ooñotoobe ka inde Makko: arma be yoboyee ko be gollaynoo". [Al-A'raaf: 180].

Allah alaa kafidiido e laamu Makko ngun, wanaa yerondiriido, wanaa wallondirteedo.

Ko O seniido e debbo e biddo, wurin ko O yonndiniido e din fow. Allah daali:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا

أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1-4]

"Maaku: Kank Allah ko O gooto. Ko Allah woni faandorteedo On. O jibinaa, O jibinaaka. Alanaa mo hay yerondirdo gooto". Al-Ikhlaas: 1-4].

Allah daali: "

﴿وَقَالُوا أَتُخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۗ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا﴾ ﴿٨٨﴾ تَكَادُ السَّمَوَاتُ
يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا
يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي
الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ ﴿[مریم: 88-93]

"Be wi'i: "Hinnorante jogitike bid'fo". Gomdii on addii huunde nyiddunde. Kammuuli din no do'a seekaade immorde e dum, leydi ndin feera, pelle den uuya fii unagol fii be noddanii Jom hinnoranke bid'fo. Haananaa Jom hinnoranke On nde jogitotoo bid'fo. Alaa wondo ka kammuuli e ka leydi, si wanaa o ardiray ka Jom hinnoranke jeyaado". [Maryam: 88 - 93].

Ko Kano seniido On siforii mawngu e ko labaa, doole e townitaare, laamu e mawngu.

Himo sifori kadi teddungal e yaafuyee, yurmeende e moyyere. Ko O yumeteedo, Mo yurmeende Mun huubiti kala huunde.

Hinnotoodo kadi, Mo yurmeende Mun aditii tikkere Mun.

Teddufo, Mo teddungal Mun alaa kaaddi, ndi lannataa ka iwi.

Inde Makko den fow ko moyye, tinndinayde e sifaaji timmal wellitungal, ngal haananaa si wanaa Allah.

Anndugol dīn sifaaji Makko, hino beydana bernde yidugol Mo mawnina Mo, hula Mo, yankinanoo Mo Kanko Allah.

Ko dūm waḍi si "La ilaha illa Allah" hino firta jonnitude jeyeede nden Allah tun, e wonnde ko Kanko tun hanndi e Allankaaku ngun, siforiido sifaaji Mun, e timmal Mun. Ko Kanko woni taguḍo, arsikoowo, neeminoowo, wuurnoowo, waroowo, tedduḍo e dow jeyaabe Makko ben. Ko Kanko tun hanndi e dewal, kafidiido woo alanaa Mo.

Kala saliido rewugol Allah, maa o rewi ko woori Allah, haray o sirkii o yeddii.

Ko Allah tun sujjantee, ruyyanee, yankinanee, juulantee.

Ko Allah tun faabibortee, O fewtiree toraare. Haaju woo dabbirtaake si wanaa Allah. Godḍum goo badortaake dfotaare e dewal, si wanaa Allah.

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ
وَبَدَلِكُ أَمْرٌ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾﴾ [الأنعام: 162-163]

"Maaku : "Pellet, julde am nden, e kirse am den, e nguurndam am dam, e maayde am nden, ko Allah woodani, Jeydo Winndere nden. Kafidiido alanaa Mo! Ko dūm mi yamiraa, ko mi woni arano e jebbiliibe ben". [Al-An'aam:162-163].

a– Ko fii hondum Allah tagiri en?

Jaabagol ngal lamndal mawngal, hino himmi haa haa hatti. Ko woni tun, ko maa jaabawol ngol immora ka wahayu Allah. Tawde ko Kanko Allah tagi en, ko Kanko kadi humpitata en ko O tagiri en kon. O daali:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]

"Mi tagiraali jinna e yimbe, si wanaa fii yo be rew am".
[Adh-Dhaariyaat: 56].

Jeyugol ngol, ko sifja denndido tagaade den fof,ngu limoowo (e Malaa'ika en) moftataa m. tagu Makko goo haawniigu ngu Allah tagi. Allah tagir den mofte fow e njuubbudi nguurndam majji, hoore jeyal e seningol Mo Kanko Allah jeydo winndere nden.

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: 44]

"Kammuuli din jeedidi e leydi ndin e ben wonube e majji no subhjinanoo Mo, alaa e huunde nde alaa subbunhinoraade yettugol Mo, ko woni tun, on faamataa subunhinaali majji din." [Al-Israa: 44].

Malaa'ika en no ñuñcora subbunhingol, wano neddo ñuncorta foofaango.

Konoi tun, dewgol mjaccudo tagudo On, ko subagol dum, wanaa doolee.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ﴾ [التغابن: 2]

"Ko Kanko tagi on : hino e mo'on yeddube, hino e mo'on gomdimbe. Allah non no reeni ko golloton kon. [At-Taghaabun: 2].

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج:

[18

"E a yi'aali wonndem Allah, hino sujjana Mo ben wonbe ka kammuuli e ka leydi, naange ngen e lewru ndun, koode den e pelle den, e ledde den e daabeeji din e ko duudi e yimbe ben? Ko duudi kon, lepte den wajibike e mun. Kala mo Alla hoyni, haray teddinoowo mo alaa." [Al-Hajj: 18].

Allah tagir en fii rewugol Mo, O ndaara ko haa honto darantoden dum. Kala rewudo Allah, O yidi Mo, O yanjananii Mo, O doftii yamaruyeeji Makko din, O pottitii hadaadi Makko din o hebay welayee Makko, e yurmeende Makko, e giggol Makko, O warjora mo njobdi labaandi. Kala non saliido rewugol Allah tagudo mo arsiki mo On, o townitanii dum, o salii jebbilanaade yamaruyeeji Makko din, o pottitoo hadaadi Makko din haray o wonii e tikkere Allah e lepte Makko muusude. Tawde Allah tagiraali en fijindaaru, O addiraali en doo nii tun. Hino jeyaa e majjube komidi, yimbe sikkoobe wonde

moyyere aduna nden -wano nande e gite e haqqil - ko yawtinirdi tun aduna, refti ontigi waaloo maaya. Ontigi ronka anndude ko addi mo e oo aduna, e ko honto o fokkiti? Allah daali:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون:

[115

"E on sikku wonnde ko fjrde Men tagiri on, hara on ruttetaake ka Amen gaa? " [Al-Mu'minuun :115].

Fotataa ka Makko, gomdindo Mo, hoolori Mo, ñaawinora Mo, yida Mo, yanĳinanoo Mo, badtora Mo dewe, waĳa ko welata Mo e kala huunde e on yeddoowo Mo Kanko taguĳo mo On, mbaadini Mo, o wonta e feenugol maandeeji e diina Makko, o saloo yankinanagol Mo.

Arano on hebiray Mo teddungal, e mbarjaari, e giggol, e welayee; oya on hawra e tikkere e lepte.

Dum ko tuma Allah immintinoyta yimbe ben e genaale mabbe, O warjora moyyimbe ben e mabbe neema e teddungal ka nder Aljannaaji, O leptiroya bonnube townitaniibe rewugol Mo ben ka nder Yiite.

Hida gasa miijaade mawnugol teddungal e mbarjaari moyyimbe ben, tuma tawata ko Allah galo On warjotoobe teddinira be yurmeende e ngalu Makko ngu lannataa, wanaa godĳo goo. Nden moyyere ko hattunde toowude neema mo lannataaa (ko ĳum areten yewtude fii mun).

Miijii kadi no lepte ĳen tiidiroyta e yeddube ben, tuma tawata Allah mawĳo toownitiido On woni ko leptoyta ben.

2- Muhammadu ko nulaado Allah:

Gomdingol nual Muhammadu ngal, ko tugala didmal ngal ka tugaale lisaamu, ko e maggal woni ko binndeere lisaamu nden mahotoo.

Neddo no silmira seedagol mo wonnde reweteedo tanaa Allaahu alaa, e wonnde ko e Makko Muhammadu nanngi nual.

a- ko firti wonnde nulaado? ko hommbo woni Muhammadu? hara nulaabe goo no adinoo mo?

Ko dum etotoden jaabagol e dii deri doo.

Nulaado: ko gorko hattudo goongunde e moyyude jikku, mo Allah subantoo yimbe ben, O wahayina e makko ko O yidi e fiyakuuji diina maa wirniidi, hooti O yamiree yottingol e yimbe ben. Nulaado ko banndike nanndo kala banndinke; o ñaamay o yariray wano mabbe, himo hatonjina e kala ko be hatonjinɗa. Si wanaa tun, himo heertorii wahayu Allah mo o yellɗnitirta mo kala ko O muuyi e wirniidi maa fiyakuuji diina di o yottinɗa e yimbe ben, himo seerti e mabbe ndenka Allah kan e makko fii hadugol mo yanugol e junuubi mawɗi maa kala ko jiiɓitata yottingol nual Allah ngal e yimbe ben.

En filloto yoga e peyyi nulaabe adinoobe Muhammad jom kisiyee, fii no bannginiren wonnde nual mabbe ngal ko gootal, ngal woni noddugol faade e dewal Allah tun. Fudɗoren fillayee Baaba Aadaama e ngaygu seytaane ngun hoore makko e geyngol makko.

b- Aarano e nulaabe ben, ko ben men

Aadama:

Allah tagir ben men Aadama e loopal, refti O wutti wonkii kin e makko. Allah daali:

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١١﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا
يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ
يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾﴾ [الأعراف: 10-15]

"Gomdii Men tagii on, refti Men mbaadini on, refti Men wi'ani Malaa'ikaabe ben : "Sujjanee Aadama", be sujji, si wanaa Ibliisa, o jeyanooka e sujjuube ben. O daali : "Ko hadu-maa sujjugol nde Mi yamir-maa?" O wi'i : "Midõ buri mo moy'ude : A tagii lam immorde e Yiite, A tagii mo immorde e loopal". O daali : "Jippo ton, haananaama nde mawnintintodaa ton. Yaltu, an ko a jeyaado e hoybe ben". [Ibliisa] wi'i : "Nennitanam haa ñalnde be immintintee". [Alla] daali : "An, ko a jeyaado e nennitanteebe ben". [Al-A'raaf : 10-15].

O dabbi nde Allah nennitanta mo haa O tonnga leptugol mo ngol, O duɗanoo mo bewingol Aadamaa e geyngol mun, fii tun ngañanaandi e ngayngu. Ilaɗ duɗorani mo ñeñyal ngal O faandorii nde seytaande bewinirta Aadama e gyengol munngol, si wanaa jeyaaɓe Allah labbinaaɓe ben. O haɗi Aadama e jurriiya mun jokkugol jebbilanoo seytaane, ɓe wona e moolorgol Allah bone makko. Seytaane fuɗɗii kuudɗe mun ɗen e Aadama e debbo mun on Hawaa (mo Allah tagiri e moodi mun) wano ardi non ka fillayee.

﴿وَيَعَادَمُ أَسْكُنُ أَنْتَ وَرَزَوُجَكَ الْجَنَّةَ فَلَآ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ فَسَوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيَدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَتَيْهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾ فَدَلَّهُمَا بِعُرْوَةٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةَ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَى حِينٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾ يَبْنِي عَادَمٌ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾ يَبْنِي عَادَمٌ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتَيْهِمَا إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾﴾ [الأعراف: 19-27]

"Ko an yo Aadama, hodū an e beyngu maa ka Aljanna, ñaamee kala nokku ka yidū-dōn; wata tun on badto ngal dōo leggal, sakko laatodōn e tooñoobe ben". Seytaane sowinsini be, fii yo o feññinan be ko suudaa e mabbe e awraaji mabbe, o wi'i: "Joomi mon hadiraali on ngal leggal si wanaa fii wata on laato Malaa'ika maa laatodōn duumotoobe [ka Aljanna]". O woondani be o wi'i: "Min ko mi laabanooobe on". O hodiri be janfa. Nde be meedunoo laggal ngal, awraaji mabbe dīn feeñani be, be wadti hibe surritora kaaki Aljanna dīn. Joomi mabbe noddi be: "E Mi hadaano on e ngal leggal, Mi wi'ani on : Pellet, seytaane ko gaño mo'on banngudō?". Be wi'idi be dīdo: "Joomi amen, men tooñii ko'e amen. Si A haforanaali men yurmedaa men, ma men jeye e sooyube ben". [Alla] daali: "Jippee (ka leydi), yoga mon ko aybe yoga. Hino woodani on ka leydi ton ñiibirde e dakamme haa saanga". [Alla] Daali: "Ko (ka leydi) ton wuroton, ko ton kadi maayoton, ko e mayri kadi yaltinoytedōn". Ko onon yo bidbe Aadama! Gomdii Men Jippinii e mo'on conci surraydi awraaji mon dīn e cudāari. - Ko cocni kulol dīn non buri muy'yude. - Ko dūm jeyaadūm e Aayeeje Alla. Belajo'o, kambe be waajitoto. Ko onon yo bidbe Aadama! Wata seytaane fitinir on wano o yaltinirnoo baabiraabe mon ben ka Aljanna, himo boora e mabbe concī mabbe dīn fii yo hollu be awraaji mabbe dīn. Pellet, himo reeni on kanko e gorol makko ngol nokku ka on yi'ataa be. Menen Men wadii seytaaneeji dīn weldiidi ben ben gomdintaa. [Al-A'raaf: 19-27].

Nde Aadama jippinanoo ka leydi, o arsikaa gedalbe, o faatii, refti geyngol makko ngol jokitii beydagol, be hawri e bewande seytaane den, o tuti e mabbe ooñagol e rewugol genaale moyyube e baabiraabe mabbe, be wayliri gomɗinal ngal sirku; Allah immini e mabbe nulaado jeyaado e mabbe, on woni Nuuhu (yo o his).

c- Annabi Nuuhu:

Ko gire sappo wonunoo hakkunde Nuuhu e Aadama. Allah nuli mo e yimbe makko ben, baawo be majjude be wadti rewude ko woori Allah. Hari ko sananmu e kaaye e genaale be rewaynoo wano waddaw e suwaa'aw e yagūusa e ya'uūqa e nasra. Allah nuliri mo e mabbe ruttugol be e dum, rewa Allah tun, wano O humpitiri dum e daalol Makko: Gomɗii Men Nulii Nuuhu e yimbe makko ben, o maaki :

﴿... فَقَالَ يَتَقَوْمَ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾

عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾ [الأعراف: 59]

"Ko onon yo yimbe am, rewee Allah. Reweteedo alanaa on ko woori Mo. Min mido hulani on lepte Ñalaande mawnde". [Al-A'raaf: 59].

O jokkiri non noddugol yimbe makko ben e rewugol Allah nder dumunna juutudo, kono ko seeda gomɗini mo. O torii Joomi makko o maaki:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٦﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾
وإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَابَهُمْ فِي عَادَاتِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ
وَأَصْرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ
وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ
السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ
أَطْوَارًا ﴿١٤﴾﴾ [نوح: 5-14]

"Joomi, mi noddirii yimbe am ben jemma e ñalorma, kono noddaandu am beydaali be si wanaa dogudu. Tuma kala nde mi noddi be fii yo A haforan be, be waɗa kolli maɓbe dɪn ka noppi maɓbe, be buumora comci maɓbe dɪn, be deppitoo, be mawnintinoo hattirde e mawnintinaare. Refti mi noddirii be e kene, refti mi feññinani be, mi gunndii be e gunndaade, mi wi'i : "Insinanee Joomi mon, pellet, O siforii wonnde Haforoowo. O accitanay on kammu ngun e rewindirde, O beydira on jawle e jiidi, O waɗana on gese, O waɗana on candi. Ko hebi on, on joopaaki e Allah yettoore? Gomdii le O tagirii on tobbe tobbe. [Nuuħ: 5-14].

E hoore ko o tiidnii o jokkindiri kon fow, o etorii fewnugol be no naldinorii, yimbe makko ben fennu mo, be jalkiti mo, be sifori mo feetere.

Allah wahayini e makko wonnde:

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ

بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ [هود: 36]

"Gomdintaa e yimbe maa ben si wanaa ben gomdinnoobe. Wata a suno e ko be gollaynoo ko". [Hud: 36].

O yamiri tafugol laana ka o waddinta kala gomdindo wondude e makko:

﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾ * وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤١﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْرِلٍ يَبْنَئُ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَتَأْتِيَ إِلَى الْجِبَلِ يَعْصُمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾ وَقِيلَ يَتَّارُضْ أَبْلَعِي مَاءَكَ وَيَسْمَأُ قَلْبِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَبْنَئُ بِسْمِ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّي أَخَافُ أَنْ تُكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٧﴾ قِيلَ يَبْنَئُ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأَمَّمْ سَمْتَهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾﴾ [هود: 38-48]

"Himo moyyina laana kan. Tuma kala nde dental hoorewal rewi ka o moyyinta ton, be jalkita mo. O maaki: "Si on jalkiti men, menen kadi men jalkitoyay on wano jalkitirton [men non]". Aray nde anndudon ko hombo lepte hoynanyde aroyta e muudum, lepte duumiide jippoo e makko. Haa si yamiroore Amen nden aroyii, hubbinirde den fati, Men daali: "Ronndo e makka kala nooneeji didi resindiraydi e beynguure maa nden -si wanaa ben kongol lepte ngol adii e mu'un- e ben gomdimbe". Gomdinaano wonndude e makko si wanaa seedaabe. O maaki: "Wadforee e makka Innde Alla ka dogugol makka e daragol makko. Pellet Joomi am ko Haforoowo Hinnotodo". Kan no dogida e mabbe e mollooda waade wa pelle. Nuuhu noddi bidde makko on, hari on no selindii: "Ko an yo binngel am, waddodu e amen, wata a wonndu e yeddube ben". O wi'i: "Mi yawoyay e fello dadndayngo lam ndiyam dam". O maaki: "Dadoowo yamiroore Alla nden alaa hannde si wanaa on Mo O yurmini". Molloonde nden heedi hakkunde mabbe, o laatodii e yoolaabe ben. Wi'a: "Ko an yo leydi, modu ndiyam maa dam! Ko an kadi yo kammu, jogito [sorambooji ndiyam din]!". Ndiyam dam beebi, fiyaaku on naawaa, [laana] kan daroyii ka dow fello juudiiy, wi'aa: "Halkaare woodanii ben yimbe tooñube". Nuuhu noddi Joomi makko, o maaki: "Joomi am, pellet bidde am on ko jeyaado e beynguure am, pellet fodoore Maa nden ko goonga. Ko An buri nundude naawoore naawoobe". O daali: "Ko an yo Nuuhu, pellet on jeyaaka e beynguure maa, nden (toraare) ko gollal ngal moyyaa. Wata a toro Lam ko a

alanaa dūm ganndal. Min Midō waajo maa fii wata a jeye e majjuḅe ḅen". O maaki: "Joomi am, mi moolorike Ma nde lanndoto Maa huunde nde mi alanaa dūm ganndal. Si wanaa A hafranam yurmi Ḍaa mi, mi jeyete e hayruḅe ḅen". Wi'aa: "Ko an yo Nuuhu, jippor kisiyee immorde ka Amen, e moy'yi dow maadaa e moḑte wonnduḅe e maada. Moḑte goo (no ton), aray Men dakmita ḅe; reḑti memoya ḅe immorde e Amen, leḑte muusude". [Hud: 38-48].

d- Annabi Hud:

Reti baawo dūm, Allah nuli e gorol Aadi ngol, e nokku no wi'ee Ahqaaf, baawo nde ḅe majji ḅe watti rewude ko wanaa Allah. Allah immini e mabbe Nulaado jeyaado e mabbe (woni Hud) yo o his.

Allah humpitirii en dūm daalo Makko:

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ
 أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا
 لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾ أَوْعَجِبْتُمْ أَن
 جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ
 خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً ۗ فَادْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
 فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ
 رِجْسٌ وَعَظْبٌ ۗ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَعَابَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ
 بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۗ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٧١﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ
 بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾ ﴿الأعراف: 65-

[72

"[Men nului] kadi haa e Aadi en, musid̄d̄o maɓɓe on Huud. O maaki : "Ko onon yo yimbe am, rewee Allah. Reweteed̄o alanaa on ko woori mo. E on hulataa [Mo]?". Hooreebe mbatu ben yeddube e yimbe makko ben wi'i : "Menen meden yi'e e dayre, menen meden sikki ko a jeyaado e fenooɓe ben". O maaki : "Ko onon yo yimbe am, dayre (woo) alaa e am ; ko woni min, ko mi Nulaado immorde ka Jeydo Winndere On. Mid̄o yottina e mo'on Nule Joomi am, min (non) ko mi laabando on (reedu), hoolniido. E haawnu on fii waaju no ari on immorde ka Joomi mon e dow gorko jeyaado e mo'on, fii yo o jertin on?! Janntee tuma nde O Wadunoo on lontiibe baawo yimbe Nuuhu ben, O beydi on ka tagu cemmbe. Jantee neemaaji Alla din belajo'o, on malete. Be wi'i : "E a aru e amen fii yo men rewu Alla tun, men acca kon ko baabiraabe amen ben rewaynoo?! Awa addan men ko foduda men kon (e lepte) si tawii ko a jeyaado e goognube ben. O maaki : "Gomdii yanii e mon immorde ka Joomi mon soɓe (lepte) e tikkere. E on wenjay lam fii inde de innudon onon e baabiraabe mo'on, Alla Jippinaali fii majje hujja?! Faditee! Min, wonndude e mo'on, ko mi jeyaado e faditiiɓe ben". Men dadndiri mo e ben wonndube e makko yurmeende Amen, Men tayi babbe ben fennube Aayeeje Amen den, be laatanooki gomdimbe. [Al-A'raaf: 65-72].

Allah wurti henndu wulndu e maɓɓe, ndu munci kala huunde e nder balde jeedidi, immorde e yamiroore Jeydo ndu On. Allah danndi Huudu e gomdimbe wonndube e makko ben.

e- Annabi Saalih:

Reti dumunna kadi yawti, gorol Samuuda ngol mawniri rewo leydi Aarabu ndin, ben kadi majjiri no beya majjirnoo. Allah nuli e mabbe Saalih jeyaado e mabbe, O sembiniri mo maandeeji tinndinaydi goongungol makko; din woni ngelooaba mawnumba, mba sugu mun alaa e tagu ngun. Allah humpitiri en dum e daalol makko:

﴿وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٧٣﴾ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَادْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصَلِّحْ آئِنَّا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ﴿٧٩﴾﴾

[الأعراف: 73-79]

"[Men nului] kadi haa e Samuuda'en, musid'oo mabbe on Saalih, o maaki : "Ko onon yo yimbe am, rewee Allah. Reweteedo alanaa on ko woori Mo. Gomdii arii on bangannduyee immorde ka Joomi mon : mbaa ko ngelooba Allah maande wonande on, tertee mba ñaama ka leydi Allah, wata on memir mba bone sakko lette muusude nanngata on". Annditee tuma nde O wadunoo on lontiibe Aadinkoo'be ñen, O weerni on ka leydi hidon jogitoo e ndantaaji mayri kubeeje, hidon lesa pelle (wadon) cuudi. Annditee neemaaji Allah ñin, wata on burtinir ka leydi ko on bonnoobe. Hooreebe mbatu mawnintiniibe ñen e yimbe makko ñen wi'ani gomdimbe lo'inaabe ñen e mabbe : "E hidon anndi wonnde Saalihi ko Nulaado immorde ka Joomi makko?" Be wi'i : Menen ko men gomdimbe ko o Nulidaa e mun kon". Ben mawnintiniibe wi'i : "Menen, kon ko gomdindon, ko men yeddube dum". Be borii ngelooba ndewa mban, be mawnintinii gaay e yamiroore Joomi mabbe nden, be wi'i : "Ko an yo Saalihi, addan men kon ko fodu'aa men (e lette) si tawii ko a jeyaado e Nulaabe ñen". Dillaango ngon nanngi be, be wadtini ka kodooli mabbe ko be jicciibe-daanii. O runtiii be o maaki : "Ko onon yo yimbe am, gomdii mi yottinii e mon Nulal Joomi am ngal mi laabanii on (reedu), kono, on yidaa laaboobe (reedu) ñen. [Al-A'raaf : 73-79].

Allah nuli kadi baawo dum, Nulaabe duudube, faade e yimbe leydi ndin. Alaa mofte de hebaali jertinoowo. Allah humpitii en fii wodbe e mabbe, O acci don fii duudube e mabbe. Be fow mabbe non ko nulal

gootal ngal be nulanoo; woni yamirgol yimbe ben rewugol Allah tun, hara kafidaali Mo e godɗum, bonnita kala ko woni rewugol ko woori Allah. Allah daali:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٣٦﴾﴾ [النحل: 36]

"Gomdii Men imminii Nulaado e kala mofte, wonnde rewee Allah, wodditodon bewinaydi din. Hino e maɓɓe on Mo Allah fewni, hino e maɓɓe kadi on mo majjere nden jozji e mun. Yiilee ka leydi, ndaaron ko honno battane fennooɓe ben wa'unoo. [An-Nahl : 36].

f- Annabi Ibraahiim:

Refti baawo dum, Allah immini Iraahiima haa e yimbe mun ben, baawo nde be majji be watti rewude koode e sanamu. Allah daali:

﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ * وَقَدْ عَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ
 مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا
 عَاقِبُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبْدِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَعِبَابُكُمْ فِي
 ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ
 أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ
 يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَىٰ
 يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَابْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَالِي الْأَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾ قَالُوا
 ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْأَلُوهُمْ إِنْ
 كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ
 رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا
 يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾
 قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يَبْنَؤُا كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ
 إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾ ﴿[الأنبياء: 50-70]

"Gomdii Men okkii Ibraahiima peewal makko ngal ko adii, Men laatii Anndube mo. Tuma nde o maakannoo baaba makko e yimbe mun ben: "Ko hondum woni di nanndonlaaji di ufinidon e [dewal] mun?" Be wi'i: "Men taw baabiraabe amen ben no rewde di". O maaki: "Gomdii onon e baabiraabe mon ben on wonii e nder majjere banngunde". Be wi'i: "Enee, ko Goonga kan addandaa men, kaa ko e fijoobe ben jeyadaa?" O maaki: "Ko woni kon, Joomi mon ko Jooma kammuuli din e leydi ndin On Tagudodi, min ko mi jeyaado e seediibe ben". Mi woodirii Allah, maa mi fewjan fii dii sanamuuji mon baawo nde on hucitude ko on ruji be. O wadi di kunte kunte, si wanaa mawndu majji ndun, belajo'o be ruttoto e mayru. Be wi'i: "Ko hombo wadi dum e reweteedi amen din? Pellet, oo ko o jeyaado e tooñube ben. Be wi'i: "Men naniino suka no jantoo di himo wi'ea Ibraahiima".(Be wi'i: "Addee mo yeeso gite yimbe ben, belajo'o be seedoto". Be wi'i: "Enee, ko an Ibraahiima wadi dum e reweteedi amen din?" O maaki: "Ko woni, ko mawnundu majji ndun golle dum, lanndeedi si tawii hidi wowla". Be ruttii e wonkiiji maabe din, be wi'i: "Pellet, ko onon woni tooñube ben". Refti be uggini ko'e maabe den [be wi'i:] gomdii hidā anndi di'i wonaa wowlaydi. O maaki: "Enee, on reway gaanin Allah ko nafataa on hay e huunde lorrataa on kadi?" Bis mo'on e kon ko rewoton gaanin Allah. E on haqqiltaa? Be wi'i: "Sunnee mo, wallon reweteedi mon din si tawii ko on golloobe". Men daali: "Ko an yo yiite, wonu buubol e kisiyee e dow

Ibraahiima". Be faandanii mo pewje, Men wadi be hayrube ben. [Al-Anbi'aa: 50-70].

Reti Annabi Ibraahiima feridi e gedfal makko on Ismaa'iila, be iwi Falastiin be fewri Makkah. Allah yamiri be diidugol suudu Kaaba ndun. O noddi yimbe ben arugol hajja rewa Allah e mayru.

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ
وَعَهْدِنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾﴾ [البقرة: 125]

"men ahodi e Ibraahiima e Ismaa'iila wonnde laɓɓinanee Suudu Am ndun : wanngotoɓe ben, e ufinotooɓe ben, e ruy'ooɓe sujja ben. [Al-Baqarah: 125].

g- Annabi Luut:

Baawo dum, Allah immini Luutu e yimbe makko ben, sifornoobe bonnde, rewaynoo be ko woori Allah, be faggitoo faahishaaku hakkunde mabbe. Allah daali:

﴿وَلَوْلَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَجِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ
الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ
أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾﴾ [الأعراف: 80-82]

"E luuti, tuma nde o maakannoo yimbe makko ben : " E on aray pankare de goddo goo adaaki on e mun e nder Winndere nden? Onon hidon yottoo e worbe ben tuuyo accon rewbe ben! Ko woni kon, ko on yimbe fantimbe. Jaabawol yimbe makko ben wonaano si wanaa ko be wi'i : "Yaltinee be ka hodo mon ; kambe ko be yimbe labbintintoo be". [Al-A'araaf: 80-82].

Allah danndi mo kanko e yimbe makko ben, si wanaa debbo makko on, on don wontiduno e yeddube ben; nde Allah yamirnoo mo yaltidugol e yimbe makko jemma ka nder hodo. Nde yamiroore Allah nden arunoo e mabbe, O wattiri dow on ley, O saayini kaaye sijiil e dow mabbe.

h- Annabi Su'aybu:

Refti baawo dum, Allah immi e yimbe Madyana ben, musidde mabbe on Su'aybu, baawo nde ben kadi majjunoo peewal ngal, jikkuuji bondi, e jaggitugol yimbe, e duytugol etirde saakitii hakkunde mabbe. Allah humpiti en fii mabbe, O daali:

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْفُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرِيدُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَقَوْمِ أَوفُوا بِالْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ بَقِيَّتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾ قَالُوا يَشْعِيبُ أَسْلَوْنَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفَعَلْنَا فِى أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾ قَالَ يَقَوْمِ أَرَعَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَكُمْ عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لُّوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾ قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُّحِيطٌ ﴿٩٢﴾ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفٌ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ ﴿٩٣﴾ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٤﴾﴾ [هود: 84-93]

"[Men nulii] kadi haa e Madyana, musiddo mabbe on Su'aybu, o maaki : "Ko onon yo yimbe am, rewee Allah. Reweteedo alanaa on ko woori Mo. Gomdii banngannduyee arii on immorde ka Joomi mon. Timminee etirde den e manndikke den, wata on duytan yimbe ben piiji mabbe din, wata on bonnu ka leydi baawo moyyugol ndi. Ko dum moodon buri on moyyannde si on laatike gomdimbe". Wata on joodo e kala laawol, hidon kamba, hidon fjaddo e laawol Allah ngol ben

gomdimbe Mo, hidon dabbana ngol ooñaare. Annditee tuma nde wonnodon seedaabe O duddini on. Ndaaree ko honno battane bonnoobe ben laatornoo. Si wonii fedde e moodon gomdinii kon ko nuliraa e mun, fedde goo gomdinaali, muññee haa Alla ñaawa hakkunde me'en. Ko Kanko buri moyyude e ñaawoobe ben. Mbatu mawnintiniingu e yimbe makko ben wi'i : "Ko maa men yaltine an Su'aybu, e ben gomdimbe wonndude e maada ka saare amen, maa arton e diina amen kan". -O maaki : "Hay si tawii ko men añube [dum]?". Gomdii (haray) men fefindike e hoore Alla fenaande si men ruttike e diina mon baawo nde Alla dadndi men e makka. Alanaa men nde men ruttoo e makka si wanaa nde Alla Joomi amen muuyi. Joomi amen yaajanii kala huunde Anndal. Ko e Alla men fawii. Joomi amen, ñaawir hakkunde amen e yimbe amen ben goonga, ko An woni burdo moyyude e ñaawoobe ben". Mbatu ben yeddube e yimbe makko ben wi'i : "Pellet, si on jukkii Su'aybu, onon ontuma ko on hayrube". Dillaango ngon nanngi be, be waɗtini ka kodooli mabbe ko be jicciibe. Ben fennunoobe Su'aybu, (be halkorino) wa si be meedaa wuurude e ngon [hodo]. Ben fennunoobe Su'aybu, be laatino kambe woni hayrube ben. O duurnii be, o maaki : "Ko onon yo yimbe am, gomdii mi yottinii e mo'on Nule Joomi am den mi laabanii on (reedu). E ko honno mi sunortoo e yimbe yeddube?!". [Huid : 85-93].

i- Annabi Muusaa:

Refti Misra bamtii e laamateeri mawnintiniido, anndiraado Fir'awna, nodditiido reweede, himo yamira yimbe yo rewu mo, o hirsaa mo o faalaa e mabbe, o acca be faalaa. Allah humpitiri en dum daalol Makko:

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ
 يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦﴾ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ
 عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٧﴾ وَنُمَكِّنَ
 لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٨﴾
 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ إِذَا فَخَفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي
 وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٩﴾ فَالْتَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ
 لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ
 أُمَّرَأْتُ فِرْعَوْنَ فَرُتْ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا
 وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۗ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ
 رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصَّرَتْ بِهِ
 عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٣﴾ * وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ
 أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٤﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ
 أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ وَكَذَلِكَ نُجَزِي
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ
 يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغْنَاهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى
 الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ
 عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٧﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ

أَلْعَفُورُ الرَّحِيمِ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَاهِرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾
 فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اُسْتَنْصَرُهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ
 قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ
 لَهُمَا قَالَ يَمُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ رَجُلٌ
 مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمُوسَى إِنَّ الْأَمْلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيُقْتَلُوكَ فَاخْرُجْ
 إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ
 الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾
 وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ
 امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ
 كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ
 فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ
 أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ
 الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ أُسْتَجِرْتَ
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نَعْبُدُ رَبَّنَا عَلَى أَنْ تَأْجُرَنا
 ثَمَنِي حِجَابٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْقِيَكَ سَتَجِدُنِي
 إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ فَصَيْتُ فَلَا
 عُدُونَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾ * فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ

بِأَهْلِيهِ ۚ ءَأَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۗ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي
ءَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٣١﴾ فَلَمَّا أَتَتْهَا نُودِيَ
مِنْ شَطِئِ الوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَمْوِسَىٰ إِنِّي أَنَا اللهُ
رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ
يُعِقِّبْ يَمْوِسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۗ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣٣﴾ أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ
بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذَلِكِ بُرْهَانِي مِنْ
رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِيهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ
نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٥﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ
رِدْعًا يُصِدِّقُنِي ۗ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٦﴾ قَالَ سَنُنْشِدُكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ
لَكَمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيٰتِنَا ۗ أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٥﴾

[القصص: 4-35]

"Fir'awna townitino ka leydi; o wadi yimbe mayri ndin pecce-pecce: himo lo'ina fedde goo e mabbe, o hirsu bidbe mabbe worbe ben, o acca rewbe mabbe ben. Pellet, ko e bonnoobe ben o jeyanoo. Meden muuya moy'agol e lo'inanoobe ben ka leydi; Men wada be koohooobe, Men wada be kadi ronoobe ben, Men hubindina be e leydi ndin, Men holla Fir'awna e Haamaana e koneeli mabbe din, kon ko be hulaynoo. Men wahayini e yumma Muusaa, wonnde: "Muynin mo". Si a hulanoyii mo, ko yo a bugoyo mo ka maayo. Wata a hulu, wata a suno; pellet, Men ruttay mo ka maada, Men wadaya mo gooto e Nulaabe ben". Yimbe Fir'awna ben hocchi mo, fii yo laatano be gafo e sunno. Pellet, Fir'awna e Haamaana e koneeli mabbe din, be latino woopube. Debbo Fir'awna on wi'i: "(Kun entum ko) buubeendi gite am e an kadi! Wata on waru mo, hino gasa ka o nafata en, maa jogitoren mo bidfo". Hari be so'aa-anndude. Bernde yumma Muusaa nden wonti yeewunde. Haa o ebbi feñinde fii makko, si wanaano Men tabintinde bernde makko nden, fii yo o laato e gomdinbe ben. [Yumma Muusaa] wi'ani banndiraawo makko on: "Jokkitu mo"; o haynii mo ka muutii, hari be so'aa-anndude. Men harminani mo (endi) muynirdi din ko adii, (banndiraawo makko on) wi'i: "On accay mi tinndina on fii yimbe suudu, be ne'ana on mo, hara kadi ko laabanay be mo?" Men rutti mo ka yumma makko, fii yo bernde makko buubu, hara o sunaaki, e fii yo o annu pellet, fodoore Allah nden ko goonga. Kono burbe duudude e mabbe anndaa. Nde o yottinoo sagatalaaku makko ngun, o fotondiri, Men okki mo faamu e ganndal. Ko

wano non Men yobirta moy'inoobe ben. O naatiri e saare nden, fewndo welsindaare yimbe mayre; o tawi worbe dido no haba ton: goddo on ko jeyaado e leñol makko, oya on ko jeyaado e aybe makko. Jeyaado e leñol makko on dabbiri mo faabo e hoore jeyaado e gaño makko on. Muusaa uttii mo, nde gayni fii makko. [Muusaa] maaki: "Dum doo, ko jeyaadam e kuude seytaane. Pellet, ko o gaño, majjinoowo banngudo". O maaki: "Joomi am, mi tooñii hoore-am; haforanam." O haforani mo. Pellet, ko Kanko woni Haforoowo, Hinnotodo On. O maaki: "Joomi am, sabu ko neeminda kon e am, mi wontataa ballo bombe ben". O wonti hudo ka saare, himo habbii [nanngede]. Tawi faabinorodo mo on hanki, hino faabinora mo [hannde kadi]. Muusaa maakani mo: "Pellet, ko a bewdo banngudo". Nde Muusaa faandinoo nanngugol tawdo on ko gaño mabbe kambe dido, o wi'i: "Ko an yo Muusaa, a faala warugol lam, wano ittirnoda wonkii non hanki? A faandaaki, si wanaa wonugol dundarankeejo ka leydi, a faandaaki jeyede e moy'inoobe ben". Gorko iwri ka buri wodude e saare nden, himo yaccoo, o wi'i: "Ko an yo Muusaa, mbatu ngun no fewjana fii warugol maa. Yaltu (e leydi ndin). Ko mi jeyaado e laabanoobe ma". O yalti ton ko o hulo, himo jijii [nanngede]. O maaki: "Joomi am, dandadam e yimbe tooñoobe ben". Nde o fewrunoo hella Madyana, o maaki: "Hino hasii ka Joomi am fewnirta lam e laawol foccingol ngol". Nde o hewtunoo ka bunndu Madyana, o tawi don dental yimbe hino yarna [daabeeji mun], o tawi gaanin mabbe, rewbe dido no sura [dammi

mun], o maaki: "Ko hondum habbi-don?" Be wi'i: "Men yarnataa haa aynoobe ben martoo, baaba amen ko mawdo nayeejo". O yarnani be [dammi din], refti o huccitiri ka dowdi, o maaki: "Joomi, min ko jippinda e am woo e moy'ere, ko mi hatonjido". Gooto e [jiwbe] ben ari e makko, himo yahra hersa, o wi'i: "Baaba am no nodde, fii yo o yobe njobdi kon ko yarnan-daa men". Tuma o hewtunoo ka [mawdo] on, o sifanii mo fii [makko], on maaki: "Wata a hulu, a dadii yimbe tooñoobe ben". Gooto e [jiwbe] ben wi'i: "Yettu mo golle, yo baaba. Pellet, ko buri moy'ude e mo yettataa golle, ko doolnufo hoolniido". [Mawdo] on maaki: "Midō yidi resingol ma gooto e jiwbe am ben doo dido, e hoore yo a golla-nam duubi jeetati. Si a timminii sappo, haray ko e sago maa; mi fonndaa sadtinande ma. A taway lam, si Allah jabii, ko e moy'inoobe ben mi jeyaa". [Muusaa] maaki: "Dum wonii hakkunde am e mon. Happu woo e majji didi di mi hunni, haray bidteede alaa e am. Allah ko Fawtiido e ko wowluden kon". Nde Muusaa timminoo happu ngun, o yahdi e beygnuure makko, o haynii yiite ka senngo (fello) Tuuri, o maakani beunguure makko nden: "Wonee doo, mi haynike yiite. Belajo'o mi addana on e magge kumpital maa te'annde yiite ngen, belajo'o iwloron". Nde o hewtunoo nge, o noddiraa ka fonngo ñaamo aynde, ka tummbere barkinaande, (takko) ka leggal, wonnde: "Ko an yo Muusaa! Ko Min woni Allah, Jeydo winndere nden". Kadi: "Bugo tuggordu maa ndun"; nde o tinunoo hindu dillira wa mboddi, o huccitiri dogudu, o yey'itaaki. [O noddaa]: "Ko an yo Muusaa! Artu, wata a hulu; ko a jeyaafo

e hooliibe ɓen. Naadu juungo maa ngon ka jiiba maa, ngo yaltay ranewo, ko aldaa e ñawu. Bakaa juude maa ɗen e maada, fii kulol ngol. Ɗin ko hujjaaji ɗiɗi, immorde ka Joomi maa haa e Fir'awna e dental mun, pellet, ɓe laatike yimɓe faasiqiibe". O maaki: "Joomi am, mi ittiino wonkii e maɓɓe, mido huli nde ɓe warata lam. Ko musidɗo am on Haaruuna ɓuri lam laaɓude ɗemngal. Immindin-mo e am ko wallitoo lam, goonginan-mi; mido huli nde ɓe fennata lam". [Allah] daali: "Men sembiniray tere maa ɗen musidɗo maa on, Men wadana on hujja (e cemmbe); ɓe hewtirtaa on ɗiɗo, sabu Aayeeje Amen ɗe [Men nuli e] mo'on, e ɓen jokkuɓe on fooluɓe". [Al-Qasas: 4-35].

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ
 آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٥﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٣٦﴾ قَالَ
 رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ لِمَنِ اتَّخَذَتْ إِلَهًا
 غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ أُولُو حِجَّتِكَ بِشْيءٍ مُّبِينٍ ﴿٣٩﴾ قَالَ فَاتِّ
 بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٤٠﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿٤١﴾ وَنَزَعَ
 يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴿٤٣﴾
 يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٤٤﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ
 وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٤٥﴾ يَا تُوكَّ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ ﴿٤٦﴾ فَجَمَعَ السَّحَرَةُ
 لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿٤٧﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٤٨﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ
 إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا
 نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٥٠﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٥١﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا
 أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٥٢﴾ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ
 الْغَالِبُونَ ﴿٥٣﴾ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٥٤﴾ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ
 سِجِّدِينَ ﴿٥٥﴾ قَالُوا ءَأَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٦﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٥٧﴾ قَالَ ءَأَمَنْتُمْ
 لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
 لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَأَصْلَبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا لَا
 ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٩﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوْلَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ * وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٰ إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿٥٢﴾ فَأَرْسَلْنَا
 فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا
 لِعَايُطُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ
 وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا
 تَرَاءَا الْجُمُعَانَ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي
 سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ
 كَالطُّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾
 ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ ﴿

[الشعراء: 23-67]

"Fir'awna wi'i: " Ko hommbo jeyi winndere nden?" O maaki: "Ko Jooma kammuuli dīn e leydi ndin e ko woni kon hakkunde majji, si on laatike yananaabe." O wi'ani wonuɓe takko makko ɓen: "E on hedotaako?" O maaki: « Ko Jeydō on O, jeyi baabiraabe mon adinoobe ɓen». O wi'i: « Pellet, Nulaadō e mon oo ko feetudō » O maaki: « Jeydō fudirde e mutirde e ko woni hakkunde majje kon, si on laatike haqqiloobe» O wi'i:"Si a jogitike reweteedō hara wonaa min,ko pellet,mi waddat ma e sokaabe ɓen". O maaki : "Hay si mi addanii ma huunde ɓangunnde ?" [Fir'awna] wi'i: "Awa addu nde, si tawii ko e goongu ɓen jeyaadaa." O werlii tuggordu makko ndun, jaka tawi ko ndu mboddi ɓanngundi, O dōofi sookeewo makko ngon, jaka tawi ko ngo ranewo wonande ndaarooɓe ɓen. O wi'ani mbatu ngun takko makko : "Oo non, ko mbileejo anndudō, o faalaa yaltinirde on mbilewu makko ngun ka leydi mon. Ko hondun yamirdon?" Ɓe wi'i: Nennan mo kanko e neene gooto makko on, nulaa ka ca'e moobayɓe, yo addane kala mbileejo anndudō mbilewu. Mbileeɓe ɓen moobaa, fii ñalaande andaande, yimɓe ɓen wi'anaa: "Taw si on moobike?" Belajo'o men jokkay mbileeɓe ɓen, si wonii ko kamɓe fooli. Nde mbileeɓe ɓen hewtii, ɓe wi'i Fir'awna: "Enee, si wonii ko menen fooli, meden mari njoddi?" O wi'i: "Eyyo, onon ontuma on jeyete e battinaabe ɓen". Muusaa maakani ɓe :« Bugee ko bugotodon kon ». Ɓe bugii boggi e cawoy maɓɓe, ɓe wi'i sabu teddungal Fir'awna ngal, ko menen woni fooloobe ɓen". Muusaa bugii tuggordu makko ndun, jaka tawi hindu modā ko ɓe fefindii kon. Mbileeɓe

ben tuggii ka leydi be sujji, Be wi'i: "Menen men gomdini Jom Tageefo ngon, Joomi Muusaa e Haaruuna". O wi'i: « On gomdinay mo ado mi duɗanaade on? (mi) anndii oo ko mawɗo mon anndindɗo on mbilewu. Arma anndon, mi taccira juude mon den e koyde mon den luutindirgol : mi fempa onon fow mon ». Be wi'i: "Ella woo alaa, menen ko ka Joomi amen men ruttotoo. Menen men tami'ini nde Joomi amen yawtanta men goopi amen, tawde men laatike adii'be gomdinnde ben". Men wahayini e Muusaa : wonde "Yaltidu e jiyaabe Am ben jemma, ko on jokkitete'be". Fir'awna nuli ka ca'e yo be moobo. (O wi'i): "Bee ko mojobere pamarel. Pellet, be tikkinii en. Enen non, en fow ko en renti'be". Men yaltini be e gese, e bulli, e ngaluuji, e ñi'birde teddu'be. Ko non men roniniri de bi'be Israa'iila ben. Be jokkiti be ka puɗal. Nde koneeli din didi yi'indirij, wonndi'be Muusaa ben wi'i : "Kon en hewtoyete'be". O maaki: "Dum wadataa. Pellet, Joomi am no wonndi e am, O feewnay lam". Men wahayini e Muusaa wonde : "Tappir maayo ngon tuggordu maa ndun". Ceekol bee foti e tulde mawnde. Men banni heddi'be ben ton. Men dandii Muusaa e wonndi'be makko ben fow. Refti Men yooli heddi'be ben. Pellet, wonii e dum, maande. Ko buri duudude e mabbe kon gomdinaali. Ko pellet, Joomi maa, ko Kanko woni Teddu'ɗo, Hinnotooɗo On. [Ash-Shu'araa: 23-67].

Nde Fir'awna anndunoo yooloto, o wi'i: "Mi gomdini wonde reweteedo alaa si wanaa Mo bid'be Israa'iila ben gomdini On. Allah daali:

﴿عَالَسَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ
لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفِلُونَ ﴿٩٢﴾﴾ [يونس:
[92-91]

"E ko jooni non? Gomdii a yeddiino ko adii, jeyaya-daa e bonnoobe ben. Hannde Men dad'ndirte banndu maa ndun, fii yo a wonan ben aroobe baawo maada tasakuyee. Pellet, ko duudi e yimbe ben gaay e Aayeeje Amen den ko welsindiibe. [Yuunus: 91-92].

Allah ronini yimbe Muusaa ben lo'inanoobe, fudirde leydi ndin e muturde mayri de Allah barkini fii mun, O munci fii kala ko Fir'awna e (yimbe mun geraynoo.

Allah jippini baawo dum, Deftere Tawreeta nden e Muusaa. Tawi peewal e annoora yimbe ben hino e mayre, ko tinndina be e ko Allah yidi O welaa kon. Nde banngini hala e karmudi din e hoore banii-israa'iila en (jokkuba Muusaa ben).

Refti Annabi Muusaa faatii. Allah nuli Annabaabe duudube baawo Makko haa e yimbe mun, ko holla be laawol sellungol ngol. Tuma kala nde Annabaajo feyyini, O lomtina goddo goo.

Allah fillanike en fii wod'be e mabbe; wano Daawuuda, e Sulaymaana, e Ayyuuba, e Zakariyaa, O fillanaaki en fii ko buri duudude kon e mabbe. Refti O timminiri be lisaa gedal Maryama on,

mo nguurndam duudi kaawaseeji, gila jibineede makko haa no o bamtiraa ka kammu.

Tawreetaare jippinanoonde nden e Muusaa waylaama gila ko booyi e juude Alyahuuda, aayotoobe wonnde ko be jokkuba Muusaa. Hara non Muusaa ko dadndiido e mabbe, Tawreetaare nde be jogii nden kadi, wanaa nde Allah jippinoo nden e Muusaa; tawde be jillii e mayre ko haananaa Allah, be sifii ton fii Allah sifaaji ustaare e lo'ere - O Toowii e ko be wowlata don toowal mawngal - Allah sifii fii mabbe, O daali:

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

[البقرة: 79]

"Bone woodanii ben winndiroobe juude mabbe den Defte, refti be wi'a: "Dum ko immorde e Allah, fii yo be sooditir dum coggel pamarel. Bone woodanii be e kon ko juude mabbe winndi, bone woodanii be e kon ko be woni e faggitaade. [Al-Baqarah: 79].

j- Annabi Iisaa:

Neene Maryama gedal Imuraana laatino debbo laabudo, rewoowo, jokkunoodo yamirooje Allah jippinooode den e Annabaabe arunoobe baawo Muusaa ben. Jeyanoodo e beynguure nde Allah subii e winndere nden, wano Allah holliri dum e daalol Makko:

﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْرَاهِيمَ وَعَالَ عِمْرَانَ عَلَىٰ

الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 33]

"Pellet, Allah subike Aadama, e Nuuhu, e yimbe Ibraahiima ben, e yimbe Imraana ben e hoore tagoore nden. [Al-Imraan: 33].

Malaa'ika 'en wewliniri mo ko Allah subii mo kon:

﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَكَ وَطَهَّرَكَ وَأَصْطَفَكَ عَلَىٰ

نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ [يَمْرَيْمُ أَقْنَتِي لِرَبِّكَ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّكَّعِينَ] [آل

عمران: 43-42]

"(Janto) tuma nde Malaa'ika'en wi'unoo: "Ko an Maryama, pellet, Allah subike ma, O labbinii ma [O subii] e rewbe winndere nden". Ko an yo Maryama, toy'yanano Joomi maa, sujja, ruy'idaa e ruy'ooobe ben. [Al-Imraan: 42-43].

Refti Allah humpiti ko honno lisaa tagiraa ka rennga neene Maryama, ko aldaa e baaba, wano joliri e daalol Allah:

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشْرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴿٢١﴾ * فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ ۖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهَزَيْتِ إِلَيْكِ جِذْعَ النَّخْلَةِ تُسَلِّقُ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَمَا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَمْرِيءُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يَا أُخْتُ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءًا وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْأَمْهِدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۗ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ ۗ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ۖ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾﴾ [مريم: 16-36]

"Janto ka Deftere, Maryama, tuma nde o deesitinoo e yimbe makko ben [o yaari] e nokkuure fundnaangeere. O jogitii wirngallo gaanin maɓbe. Men nuli e makko (Jibriilu) Ruuhu Amen on, o nanndintini mo e banndinke fotondirdo. O maaki: "Mi moolorii e maada Jom yurmeendee On, si tawii ko a gomduɗo, [wata a baɗo lam]". O wi'i: "Anndu min, ko mi Nulaado Joomi maa, fii yo mi okke suka laabudo". O maaki: "Ko honno suka laatoranta lam, hara banndinke meemaali lam, mi laataaki kadi jeenoowo?". O wi'i: "Ko wano non Joomi maa daaliri, wonnde dum ko ko newanii lam! E no Men wadira mo maande wonande yimbe ben, e yurmeende immorde e Amen. Dum wonuno fiyaaku ñaawaado". O sowii mo, o pododi e makko e nokkuure woddiinde. Njata on fidi mo e jullere tamarohi, o maaki: "Ee jalla am, hara nun mi maayuno ko adii dum, mi wona yejjitaado fii mun". O noddiri mo ley makki, [wiide mo]: "Wata a suno. Joomi maa wadii bunndu ley (koyde) maa. Yeyu senngo maa jullere tamarohi kin, libaa e maada, benndude tebetede. Naamaa yaraa bubbinaa bernde. Si a yi'ii gooto e banndinke, maakan [Mo]: "Min dey, mi takkanii Yurmeteedo on koorka: Mi wowlidata e nedanke hannde on". O ardi e makko ka yimbe makko ben, himo tammbii mo. Be wi'i: "Ko an yo Maryama, a addii huunde haawniinde! Ko an yo banniraawo Haaruuna, baaba maa wonaano neddo bondo, yumma maada kadi laataaki jeenoowo". [Maryama] joopii e makko [kanko boobo on]. Be wi'i: "Ko honno men yewtirta wondo sanfa fewndiido e woofordu?" [Isaa boobo] on maaki: "Min on, ko mi jeyaaɗo Allah. O okkii lam

Deftere nden, O toɗɗii lam Annabaajo. O wadi kam barkinaaɗo nokku kala ka mi woni; O wasiyori lam julde e Jakka, fodde mido wuuri. E digganoowo yumma am. O wadaali lam dunndarankeejo malkisaado. Kisiyee on wonii e am, ñalnde mi jibinaa, e ñalnde mi maayata e Ñalnde mi immintintee ko mi wuurudo". On ko lisaa, geɗal Mariyama: daalol goonga, ngol be sikkito fii mun. Haananaa Allah nde O jogitotoo biɗɗo. Senayee wonanii Mo! Si O ñaawii (faandanagol) fiyaaku, O daalanay mo tun: "Wonu"! O wona. Pellet, ko Allah woni Joomi am e Joomi mon. Rewee Mo. "Ko dum woni laawol focciingol". [Maryam: 16-36].

Nde lisaa noddunoo yimbe ben e rewugol Allah, wodbe nootii, duudube ben salii. O jokkitii noddugol be e rewugol Allah, kono buy e mabbe yeddi dum, be ayri mo, be etii wjarde mo, Allah daali:

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ...﴾ [آل عمران: 55]

"Ko an yo lisaa, Min ko mi hunnoowo ma e bamtoowo ma ka Am, e laɓɓinoowo ma e yeddube ben". [Al-Imraan: 55].

Allah nanndintini mo e gooto e radotonoobe mo, be nanngi on be wari, be femmpi, be sikki ko lisaa be hawri e mun. Tawi Allah bantiino mo jka Makko. Ado non o iwude aduna, o wewlinirno yimbe makko ben, wonnde Allah imminoyay Nulaado goo, himo wi'ee Ahmad, on saakitoyay diina Allah kan. . Allah daali:

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا
 لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ...﴾ [الصف: 6]

"e Tuma nde lisaa gedal Maryama on maakunoo : "Ko onon yo gedalbe Israa'iila, pellet, ko mi Nulaadō Allah e mon, mi gomdindō nden wonnde e sookeeje am, immorde e Tawreeta, e wewliniroowo fii Nulaadō aroyoowo baawo am, wi'eteedō Ahmad". [As-Saff: 6].

Refti dumunna seedaajo yawti, jokkuba lisaa ben sennditii, fedde goo e maŋbe yalti e juude, be aayii wonnde lisaa ko gedal Allah - Allah non toowii e dum - 'Be wowlir dum tawde be yi'ii lisaa jibiniraam e baawo baaba. Allah yewtiri fii dum wiide:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَاكُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 59]

"Pellet, sifa lisaa ka Allah, ko wano Aadama; O tagirii mo e mbummbuldi, refti O daalani mo: "Laato!" o laatii. [As-Saff: 59].

Ko lisaa tagiraa kon baawo baaba, wanaa ko haawnii buri tagireede Aadama baawo baaba e neene.

Ko dum wadi si Allah no yewtira bidbe Israa'iila ben ka Alqur'aana, fii no be wodditora ngun keeferaaku. Allah daali:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾﴾ [النساء: 171-173]

"Ko onon yo yimbe Defte, wata on burtin ka diina mon, wata on wowlu e hoore Allah si wanaa goonga. Pellet, Mema-sella iisaa gedal Maryama on, ko Nulaadō Allah e daalol Makko ngol O werlii e Maryama, e ruuhu immorde ka Makko. Gomdīnee Allah e Nulaadō Makko on, wata on wi'u [Allah ko]: "Tato". Hadītee, ko dūm buri moy'yannde on. Anndee Allah ko reweteedō Gooto. Senayee woodanii Mo nde bidōo laatantoo Mo! Ko Kanko woodani ko woni ka kammuuli e ka leydi. Allah yonii hoolorteedō. Mema-sella on buurnitaaki nde o laatotoo jeyaada Allah, wanaa Malaa'ikaabe badtinaabe ben. Kala buurnitaniidō rewugol Mo o mawnintinii, ma O moobitoy be ka Makko be denndaangal. Si tawii ko ben gomdimbe be golli moy'yuḍi, O timminanay be njobdi maḅbe ndin, O beydana be bural Makko ngal. Beya buurnitiiḅe mawnintinii, O leptay be lepte muusudē, be heḅanoytaake gaanin Allah, gidō, wanaa ballo. [An-Nisaa':171-173].

Allah yewtiroyay iisaa Ñalnde Darngal wiide :

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ
 قُلْتُهُ وَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ
 الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ
 عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾﴾ [المائدة: 116-119]

"(Janto) kadi tuma nde Allah daaloyte : "Ko an yo lisaa gedā Maryama, e ko an wi'i yimbe ben : "Jogitee lam min e yumma am reweteebe dīdō ko wanaa Allah?" O maaka : "Senayee woodanii Ma! Haananaa lam nde mi yeetotoobe ko alanaa lam e mun gebal! Si wonii mi wowli dūm, haray pellet, A anndii. Hidā anndi ko woni e wonkii am, min non mi anndaa ko woni e wonkii Maa. Pellet, ko An woni Anndudō wirniidī dīn". Mi wowlanaali be, si wanaa kon ko yamirdāa lam, wonde: "Rewee Allah Joomi am e Joomi mon". Mi laatino e dow mabbe, seeditiido yeru ko mi wonunoo hakkunde mabbe. Baawo nde hunnudāa mi, wonudāa An, Tommbiido e dow mabbe. An ko A Seediido e kala huunde. Si A lettii be, pellet, kambe ko be jeyaabe Maa. Si A haforanii be, pellet, ko An woni Fooludō, Ñeeñudō. Allah daali : "Ndee ko ñalaande nde goonga nafata googunbe ben goonga mabbe on : hino woodani be Aljannaaji no ila e ley majji candi, ko be duumotoobe e majji poomaa". Allah Welaama be kambe kadi be weltorii Mo. Ko dūm woni polagal mawngal ngal. [Al-Maa'idah:116-119].

Ko wadi Masihu biy Maryama yo o his na hisi e miliyonij inniroobe ko'e mabbe masiihankoobe rewvb e Masihu:

3- Muhamadu Nelaado Alla woni timmorde Annabaabe e Nelaabe.

Caggal bamteede lisa yo o his dummuna juutjɔ yawti na tolno e pelle jeegom; yimbe beydi oonyaade ga e peewal; keefereegal e majere cari e rewde ko wonah Alla. Allah nuliri Muhammadu (Jom kisiyee on) leydi Makkah ndin peewal e diina goonga, fii no Allah tun rewiree, hara O sirkanaaka. O yooɓini mo Aayeeje e kaawjjisaaji semmbinayɗi Annabaaku e Nulala makko, O wadi mo timmoode e Nulaabe, non kadi diina makko kan woniri tmmooode e diina, reeaaka e wayleede wattitee haa aduna lanna, darngal daroo. Ko hommbo woni Muhammadu? Ko hombe woni yimbe makko ben? Ko honno Allah nuliri mo? Ko tinndinta e Nulal makko ngal? o woni fii nguurndam makko? Ko dum woni bannginirten ñoggugol ko arata koo.

a- Dammba e iwɗi makko e teddjungal makko:

Innde makko : ko Muhammad Ibn (gedal) Abdullah, Ibn Abdul-Muttalib, Ibn Haashim, Ibn Abd-Manaaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab. Himo dammbii e Ismaa'iil gedal Annabi Ibraahiima. Ko o jeyaado e gorol Qurayshi ngol, Qurayshi kadi ko e Arabu jeyaa. Jibinaado Makko hitaande 571 jibineede lisaa Almasiihu. Ben makko faatino hari o jibinaaka, o mawni ko o yatiimatu e ndenka soro makko Abdul-Muttalib, nde on don kadi faatino, bappa makko Abu Taaleb dannkii mo.

b– Sifaaji makko ɗi:

En jantinokke wonnde Nulaado subeteedo on ka Allah, ko maa tawa himo sifori wonkii laabuki, e goongugol e yewtere, e moyyugol jikku. Ko non tigiri Muhammadu (jom kisiyee on) siforno. O mawnidu e goonga, e hoolaare, e jikku moyyo, e wowlugol ko moyyi, e laabugol demngal, yidaado fow, mawninaado fii mun ka yimabe makko, teddinaado hakkunde mabbe, ko hoolaado be jammunoo mo; wurin ko kanko halfinteno keyeeji mabbe ɗin si be setaade.

E hoore ko o moyyi kon jikku, hari kadi ko o labanoodo mo gite haabataa ndaarude; rawna yeesoojo, njanda giteejo, juutudo mbaymbaykooji, bawla sukunduujo, yaajudo balaaje; o juutaano o rabbidaa, hawruɗo ndaarnde hakkunde worbe ben, himo badinoo e juutugol. Gooto e sahabaabe makko hino sifora mo ni: "Mi yi'irii Nulaado on mo jam e kisiyee woni e mun, hino e cuɗaari yamaniyaŋkooji, mi meedaali yi'ude ko buri mo labeede". Humambinne, o anndaano binndol e jannde hakkunde humambinne-be ka janngoowo winnda duudaano. Ko woni tun, hari hiɓe firndi, be mari haqqil, yaanunoobe maanditagol.

c– Quraysh e Arabu:

Yimbe Annabiijo on (yo o his) e gorol makko ngol ko Makkah hodunoo, takko ka Suudu hormanteendu ndu Allah yamirnoo Annabi Ibraahiima e gedal Makko on Ismaa'iila didugol.

No neebirta non, ben yimbe makko wodɗitii e diina Ibraahiima kan (woni labbinangol Allah diina), kambe e gori ɗin takko mabbe ɗon, be subii rewugol sanamu, e kaaye, e ledɗe, e kaŋŋe ɗen ka sera Kaaba; be mawnini fii mayru, be fiibi wonnde ndu nafay ndu lorryay. Be sinci

dewe goo wano rewugol sanamuuru Hubal ndun mawnunoonda fiyaaku ka mabbe. Wonndude e sanamuuji goo, e ledde de be rewaynoo ko wanaa Allah gada Makkah, piiji di be mawninnoo fii mun; wano Laata, e Uzzaa, e Manaata. Hari nguurdam mabbe dam hino heewi manti e hollitagol, jaggita yimbe, e hareeji hulbiniidi. E hoore hiibe wonndunoo e jikkuji mojjudi goo, wano cuucal, e teddingol kodo, e wowlugol goognag ekn.

d- Nuleede Annabiijo on mo jam e kisiyee woni e mun:

Nde Annabiijo on mo jam e kisiyee woni e mun on timminnoo duubi cappande nayi, hari be seenotono ka fammeere Hiraa' yaasi Makka, ko don wahayu on arano on jippii e mabbe immorde e Allah. Jibriilu addani mo dum, o nanngi mo o banni e makko, himo wi'ana mo :

﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥﴾ [العلق: 1-5]

"Janngu", o jaaboo : "wanaa mi janngudo", o fillitii dimmun haa dum sattiri mo, himo wi'a : "Janngu", o jaaboo : "wanaa mi janngudo", o fillitii dum tammun, himo wi'ana mo: "Janngu", o jabboo : "wanaa mi janngudo. Jibriilu maaki: Janngu inde Joomi maa, On tagdo Tagirdo neddo e heddere Janngu e Joomi maa, burdo teddude On anndinirdo karambol O anndini neddo ko o anndaa. [Al-Alaq:1-5].

Refti Malaa'ikaajo on hooti o acciti mo. Nulaado on yiltii ka suudu, genndo makko on huli denyii. O maakani gennda makko Khadija : "Suddam, mi hulanii hoore-am". On wi'ani mo: "Wata a hulu. Mi woondii Allah hoynataa ma fes. Tawde ko a jokkudo endam, hida ronnditoo donngal, hida wallitoo goonga".

Jibriilu artiroyi e makko e mbaadi ndi Allah tagiri mo ndin, hombo uddi hakkunde banngeeli o wi'i: "Ko an yo Muhammadu, min ko Jibriilu, an ko a Nulaado Allah".

Wahayu on jokkondiri immorde ka kammu, hino yamira Nulaado on noddugol yimbe makko ben e rewugol Allah tun, rentina be e sirku e keeferaaku. O fuddii noddirde yimbe makko ben gooto gooto, burbe badaade ben, fii no be naatira e diina lilaamu. Ko adinoo gomdinnde mo, ko gennda makko Khadija gedal Khuwaylid, e weldiido makko Abubakr As-Siddiq, e biddo bappa makko Ali Ibn Abi Taleb.

Nde yimbe makko ben anndunoo fii noddaanu makko ndun, be fuddii dartagol mo be fawjana mo be ayri mo. Ñalnde goo tun, o yalti e mabbe o ewnii : "Waa sabaah", ko be wi'aynoo si be faalaam moobude yimbe ben. Yimbe makko ben moobii hibe faalaa hedaade mo. O maakani be : Yeetee lam, si mi humpitii on wonnde gaño mon on dawanay on maa hiirndana on, on goonginay lam?" Be wi'i: "Men anndiraama fenaande". O maaki: "Awa ko mi jertinoowo on fii lette sattude". Bappa makko Abu Lahabi wi'i: Kuddi woodanii maa ! Ko dum moobir-daa men?" Allah jippini don e Nulaado Makko on daalol Makko :

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصِلَىٰ نَارًا
ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَأُمْرَأَتُهُ وَحَمَّالَةَ الْخَطْبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾﴾ [المسد:

[5-1

"Juungo Abu Lahabi ngon halki ke, kanko men. Jawdi makko nafaali mo e ko o fakkitii kon. O naatoyay Yiite Dulboowe. Debbo makko ronndotonoodo carmale on kadi, o deddiroyte ka daande makko yooro badoo. [Al-Masad:1-5].

Nulaado jokki noddugol be e diina kan, himo wi'anabe : wi'ee La Ilaha Illa Allah, maledon. Be jaaboo mo: Kere o waday reweteeɗi dɪn fow gooto? Awa dum doo no haawnii.

Aayeeje jippori ka Allah hino nodda be e peewal, rentina be e majjere nde be unii e mun. Hino jeyanoo e den Aayeeje, daalol Allah:

﴿قُلْ أَنبِئُكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ
أنداداً ذلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَواسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ
فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ
فَقَالَ لَهَا وَاللَّأَرْضَ أُنْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْلِيحٍ
وَحِفْظًا ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾ فَإِن أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ
صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ ﴿١٣﴾﴾ [فصلت: 9-13]

"Maaku: "E onon on yedday On tagudo leydi ndin nder balde didi, wadanon Mo honoobe? Awa ko On woni Jeydo winndere nden, O wadi pelle e dow mayri, O hebbini barki e mayri, O ebbi nguureeji mayri din e nder balde nayi timmude, wonande lamndotoobe ben. Refti O fotondiri ka kammu, fewndo ka ngu curkinnoo, O daalidani ngun kanngu e leydi ndin: "Ardiree doftaare, maa wawnaeede". Di wi'idi: "Men arii ko men doftii be". O timminiri di kammuuli jeedidi nder balde didi, O yamiri kala kammu, fiyaaku maggu. Men cudiniri kammu aduna ngun, koode e reenirdum. Dum ko ebbore Fooludo, Anndudo On. Si be duurnike, haray wi'u be: "Men jertinirii on haacaangu, sugu haacaangu Aadi'en e Samuuda'en, [Fussilat:9-13].

Kono den Aayeeje e noddee fow nafaano beydaano be si wanaa salaare e townitanagol goonga, wurin be waduno lettude kala naatunoodo Islaamu, tentinii lo'inanoobe be alaano ko dartonoobe ben; be wallina molloode kaaye e hoore berde mabbe den, be daasa be ka luumooji fewndo nguleedi. Be wi'a yo o yeddu diina Muhammadu kan maa o welee de lette don haa o maaya. Wodbe e mabbe maayi e dum.

Nulaado on kan, hari ko bappa makko Abu Taleb reenunoo mo, yidunoodo mo yurmeteedo mo, jeyanoodo e teddube Qurayshi ben. Kono o naataano Lislamu.

Qurayshi etii faamondirgol e Nulaado on fii no o accitira noddandu makko ndun, be weebitani mo jawle e laamu e kala jiñinaydi sarti deyyugol mo noddangol diina hesa kan, wiide hika cukkii reweteedi mabbe di be teddini fii mun din, di be rewata gaain Allah. Hari darnde

Nulaaɗo on ko wellitunde, tawde ko Allah yamiri mo yottingol diina kan e yimbe ben. Si o tertike nden yamiroore, ko pellet, Allah lettiray mo ɗum. O maakani be : ko moyyere mi faandainii on, onon yimbe am e gorol am. "Mi woondirii Allah ! Si mi fennii yimbe ben fow, mi fennataa on onon, si mi janfiimja kadi yimbe ben fow, mi janfotaako onon".

Nde be etinoo be ronki darnugol noddandu makko ndun, Qurayshi en beydii ayrugol e Nulaaɗo (yo o his) e kala jokkuba mo. Be ɗabbiri bappa makko Abu taleb henndingol mo be fii fewjangol mo, be okka mo kala ko o faalaa, maa o acca cukkagol diina mabbe kan. Bappa makko ɗabbiri mo deyyugol noddande kaa diina.

Annabiijo on mo jam e kisiyee woni e mun on mbojji be maaki: "Ko an yo bappa am, mi woondirii Allah ! Si be waɗirii naange ngen ka ñaamo am, lewru ndun ka nano am fii no mi acciira kaa diina, mi waɗatah ɗum fotde Allah bamtaali ka maa mi maaya adu mun"

Bappa makko wi'i : "Yahu wowlaa ko faaladaa. Mi woondirii Allah, be hewtataa ma si wanaa hara mi maayu mi accu-maa". Nde maayde nden hewtunoo bappa makko Abu Taleb, hari koohoobe Qurayshy no takko makko ɗon, Nulaaɗo on etii no o naatira Lismaam, himo wi'ana mo: "Bappa, wowlu konngol ngol mi jeejiranoyte Allah; wi'u: "La Ilaha Illa Allah". Koohoobe ben jaabitii: "A ɗurnoto diina mawbe ben?". O subii mawningol diina mawbe makko ben e hoore diina lismaamu kan, o maayidi e sirku. Annabiijo on sunii ko tiidi battane maayde bappa mabbe nden e hoore sirku. Allah daalani mo:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ | القصص: 56]

"Pellet, an (Nulaaḍo), a fewnataa mo yidūḍaa; kono Allah no fewna on Mo O muuyi. Ko Kanko ɓuri anndude feewuɓe ɓen. [Al-Qasas:56].

Ɓe jokkiri non lorrugol Annabiijo on ɓaawo faatagol bappa makko Abu Taleb. Ɓe yetta tuude iwɗe e kulle, ɓe bugora mo ɓaawo hara himo juuude ka Suudu Kaaba.

Refti Nulaaḍo fewri e saare Ta'if nden, fii noddugol yimbe ton kadi e Lislām (ɗon no wodɗiri Madiina kilooji 70). Yimbe Ta'ifu ɓen mettaa noddaandu makko ndun ɓuri yimbe Makka ɓen, ɓe woni e fidugol mo raɗoo mo ton, ɓe jokkitiri mo kaaye haa tunndaje mabbe den sili yiyam.

Nulaaḍo on fewti Joomi mabbe, ɓe torii faabo. Allah immini Malaa'ikaajo, on wi'ani mo: Joomi maa nanii konngi ko yimbe maa ɓen huuwu maa kon. Si ɗa yidi, mi notindira pelle den ɗiɗi e mabbe. Ɓe maaki : Oo'o. Miɗo jortii nde Allah yaltinta e mabbe rewoobe Mo Kanko tun, hara ɓe kafidataa Mo e godɗum goo.

Refti ɓe ruttitii Makkah, ngayngu yimbe makko ɓen fudditii e kala gomɗimbe mo. Yimbe goo iwoyi Yathriba (ko wi'ytee Madiina ontuma) haa e Nulaaḍo on, o noddi ɓen e Lislāmu, ɓe nootii. O immindini ɓe e sahaabaajo makko gooto hino wi'ee Musab bun Umayri fii ko janna ɓe Lislāmu. Duudube e yimbe Madiina ɓe silmi e juude makko.

Hitaande hikkunde ɗon nden, ɓe arti ka Nulaaḍo hiɓe yeeyondira e mabbe Lislāmu. Refti ɓe yamiri sahaabaabe mabbe ɓen ferugol yaha Madiina. Ɓe feriri dente dente e gooto gooto. Ɓe wi'aa "Muhaajirun" (feruɓe ɓen). Yimbe Madiina ɓen jabɓori ɓe teddungal,

be weerni be ka cuudi mabbe, be senndodi e mabbe jawle e cuudi mabbe dɪn; ben dɔn wi'a taakambe ben "Al Ansar" (walloobe ben).

Nde Qurayshi humpitinoo fii ngun fergu, be ebbi warugol Annabiijo on. Be huubiti galle mabbe dɛn fii no yanira e makko si o yaltii. Allah danndi mo bone mabbe, o yalti e hoore mabbe fewndo ka be so'aa anndude. Abu Bakr As Siddiq hewtitoyiibe, Nulaado on yamiri Ali heddagol Makkah fii ruttugol kaliifuuji accanoodi dɪn ka Nulaado.

Ka laawol fergu, Qurayshi wadani ngeenaari kala nanngudo Muhammadu o wuuri o maayi. Kono Allah danndi mo haa o hewtidoyi e sahaaba'en makko Madiina.

Yimbe Madiina ben jabbori mo welo-welo tiidungo, be fow be yalti jabbagol Nulaado on, hiibe wi'ee: "Nulaado Allah on seenike, Nulaado Allah on seenike".

Nulaado on tabiti dɔn, be fuddori dɔn didugol juulirde nden, be watti janningol yimbe ben diina, be fiina be Alqur'aana, be finndina be e jikkuuji moyyi, sahaaba'en badoo be fii beydagol e mabbe, be labbini pittaali mabbe, be toowi fii jikkuuji mabbe dɪn, be tiidini yidugol Nulaado on (yo o his), be battinori sifaaji mabbe dɪn, giggol liimanaaku ngun tiidi hakkunde mabbe; Madiina wonti saare misal, ka maloore e musidaaku woni, tawde galo e baaso seedaa ka mabbe, wanaa daneejo e hoore baleejo, wanaa kadi aarabeejo e hoore ajame; gooto e mabbe burdiraa heddii ben si wanaa gomdinal e kulol Allah. Ko e ben subaabe woni ko giral burngal moyyude ngal iwi e nder taariika.

Baawo hitaande timmii e ferngo Nulaado on (yo o his), poodondiral e hare fuddii hakkunde mabbe e gorol Qurayshi ngol e kala nanndo mabbe ka ayrugol e lisaam.

Hare aranere nden wadi hakkunde mabbe, nden woni hare Badri nden, e aynde hakkunde Makkah e Madiina. Allah semmbini juulbe ben, hari limoore mabbe ko 314, Qurayshi en kan 1000 laatinoo. Kono be fooliri be no haawnorii, tawde cappande jeediɗo warano e Qurayshi, ko buri kon e ben hari ko koohooɓe e ardiibe, be dahi kadi cappande jeediɗo e mabbe, ko heddii kon laawii.

Hareeji goo kadi yanuno hakkunde Nulaado e Qurayshi, Nulaado on waawuno (baawo be yaltude Makkah duubi jeetati) hebbilugol konu ngun 10.000 haboowo naatube lilaam Makkah don, fii ko haba Qurayshi ka mabbe, be foola be radoo, be liba fii ngol gorol fewjungol warugol be, lettube sahaabaabe makko ben, be falii diinaa Allah kan.

Nulaado moobiti be baawo ngal poolal mawngal, o maakani be: "Ko onon yo jamaa Qurayshi ! Ko tamyini don mi waday on? " Be wi'i: "Ko a sidɗo moyyo, bii moyyo". Be maaki : "Yehee, ko on accitaabe". O yaafii be, o accani be ndimaagu naatugol lilaamu".

Dum woni sabu yimbe ben naatude ka diina lilaamu, dente-dente. Yimbe suriire Arabu nden fow naatii Islaam.

Neebitaali don seeda, Nulaado on hajji, be hajjidi e 114.000 e silmube kesum e diine islaam.

Be darii be kutubi nden ñalnde hajju mawɗo, hibe banngina sari'aaji diina lilaamu, be maaki: hino hasii ka mi ronka tawdeede e mon baawo ndee hitaande doo. Haray yo tawaabe ben yottin e tultube ben. Refti be ndari be maaki : Enee, hara mi yottinii? Yimbe ben wi'i: Eyyo. Be maaki: Allah seedito. Hara mi yottinii? Yimbe ben jaabii kadi: Eyyo. Be maaki: Allah seedito.

Baawo dum Nulaado on ruttii Madiina. Be kutubi ton kadi ñalnde goo, be maakani be: "Jeyaado mo Allah subini hakkunde luttugol

aduna e kon ko woni ka Allah, o subii ko woni ka Allah kon. Sahaaba en mbojji, be anndi Nulaado ko hoore-mun faandii, be anndi kadi hewti ka be egga e aduna. Nalnde tenen 12 lewru tataburu fergu, e hitaande 11 fergu, nawnaare nden tiide e Nulaado on, faddere maayde nden fuddi be, be ndaariri sahaabaabe mabbe ndaarde waynagol, be wasiyiibe reenagol e julde nden, wonkii mabbe ruttii ka Allah.

Sahaaba en duffori maayde Nulaado on (yo o his), be sunii haa hatti, denyere nden battini e mabbe haa tawi goddo e mabbe - woni Omar - bamti kaafa mun kulol juhal faatunde nden, himo wi'i: "Mo mi nanirtah na wjiya Nulaado on maayoo woo, mi tayay daande makko nden".

Abu Bakr immii, himo jannga daalol Allah:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَلْقَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: 144]

"Muhammadu wonaali si wanaa Nulaado: gomdii fey'ii ko adii mo Nulaabe. E si o faatike maa o waraama, on waylitoto e badte [keeferaaku] mo'on? Kala waylitiido e badte mu'un, o lorrirtaa Alla hay e huunde, arma Alla Yobita ben jaarnooɓe [Mo]. " [Al-Imraan: 144] .

No Omar nanirnoo oo Aaya, o fukkii, o faddaa.

Haray ko oo woni Muhammad, Nulaado Allah on, timmoode e Annabaabe e Nulaabe. Allah nulirii mo e yimbe ben fow welingol e

jertingol. O yottini nulal ngal, o totti hoolaare nden, o laabani mofteden reedu.

Allah sembiniri mo Alqur'aanare nden, daalol Allah

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾

[فصلت: 42]

"tellingiraangol ka kammu, ngol tawata meere iwraantaa nde yeeso mayre, wanaa baawo mayre. Ko jipporiinde immorde ka Ñeenyo, Yettiniido On. [Fussilat :42]

Mi woondii ! Si neddanke fow - gila ka aduna fuddi haa ka hatti - wallindiir fii addugol yeru mayre, be waawataa dum; hay si tawii non yoga mabbe ko wallaybe yoga.

Allah daali:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾﴾ [البقرة: 21-25]

"Ko onon yo yimbe! Rewee Joomi mon, On tagudó on e beya adinoobe on; Belajo'ó onon on hulay (Allah). On wadandó on leydi ndin ndadúdi, e kammu ngun mahoodi. O jippini, immorde ka kammu, ndiyan. O yaltiniri sabu majjan dimde. Dun ko arsike wonannde on. Wota on wadan Allah yerondiraabe hara onon hidon anndi. Si on wonii e sikkitagol ko Men jippini kon e jeyaado Amen on, haray addee cortewol yeru mayre, noddon seeditotoodi mon din ko woori Allah, si on wonii ko on goongube. Si on wadaali dum, on wadataa le, hulee Yiite ngen nge hubbitirde mun woni yimbe e kaaye; nge hebilanaama yeddube ben. Wewlinir ben gomdimbe be golli golle moy'ye, wonnde no woodani be Aljannaji di candi ilata ley mun. Tuma kala be yedaa dimde e majji, be wi'a: "Ko dum men yedanoo ko adii". Be addannee dum ko nanndi. Hino woodani be nder majji ton: genndiraabe labbinaabe. Kambe ko be duumotoobe ton. [Al- Baqarah: 21-25].

Ndee Alqur'aanaare hino yowondiri e corteeji 114, Aayeeji 6236. Allah teedinike neddanke on gila ko booyi, fii addugol cortewol gootol nanndugol e certeeji Alqur'aana din. Cortewol burngol fandude ngolka Alqur'aana ko Aayeeji tati mari.

Si be waawii dum, haray yo be annde wonnde ndee Alqur'aanaare wanaa ka Allah iwri. Ko dum buri mawnude emu kaawisaaji di Allah semmbiniri Nulaado Makko on (yo o his). Ko non kadi o semmbiniri mo goddi goo, di tiindotaako. Hino jeyaa e majji:

e- Semmbinirgol Annabiijo on mo jam e kisiyee woni e mun on:

1- Toragol Allah, wada sookewo mabbe ngon e miran, ndiyam bullita e kolli mabbe din, konu mabbe ngon yara dam ndiyam, be limoore mun burata ujunere.

2- Be torotono kadi Allah, be wada sookewo mabbe ngon e ñaamete, on ñaamete beydoo e miran on haa ka tawata 1500 sahaaba ñaamay.

3- Be bamtayno kadi sookewo mabbe ngon be fewtina ka kammu, be toroo Allah tobugol ndiyam, be iwataano don haa ndiyam dam saaya e yeeso e mabbe. E kaawjisaaji goo duududi.

Allah sembiniri mo reenugol mo, hara gooto e faalaabe warde mo ben ebbunoo mulinde ndaygu makko ngon hewtataa mo. Ko dum Allah holli e daalol Makko:

﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ

رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴿٦٧﴾ [المائدة: 67]

"Ko an yo Nulaado, yottin kon ko Jippinaa e maada immorde ka Joomi maa, si a wadaali, haray a yottinaali nual Makko ngal. Allah ko dadndoowo ma e yimbe ben." [Al-Maa'idah: 67].

Nulaado on e ko Allah sembinirnoo mo kon laatino ñemtinirteedo moyyere e kala konngudi e golle mabbe. Ko kambe adotonoo gollirde yamaruyeeji immorraydi ka Allah din. Hibe

rerdunoo kadi e dewe e doftaaje, burnoobe moyyagol e yimbe; be heddortaano goddum e jawdi mabbe, hara miskiino e baaso e hatonjimbe hino woodi, hay ko ronetaa kon. Be maakanno sahaaba en: "Menen jamaa Annabaabe ben, men ronataake. Ko men acci kon ko sadaka".

Jikku mabbe on kan, gooto badotaako be. Wonndunoodo e mabbe woo yiday ko laabi poy. Nulaado on wona buraado yideede ontigi e dii bidbe e mawbe makko e yimbe ben fow.

Anas gedal Maalik, kurkaadu Nulaado on mo jam e kisiyee woni e mun on wi'i: "Mi memaali newre buri laabude wanaa daatude wanaa burnde uurude, haa hewta newre Nulaado Allah on. Mi yangani be duubi sappo, be meedaali lam wi'annde fii ko mi golli, ko hondum wadan-daa nde, wanaa hunnde nde wadaali, ko hondum hadi wadaa nde".

Ko on woni Muhammdu mo Allah toowni fii mun, O toowni fii makko e hoore tagoore nden. Nedfow oo yewtetaake fii mun hannde e ado hannde haa hewta be. Gila duube ujunere e teemedde nayi, miyonji e noddinoobe nder aduna on hino feññina laawi jowi wiide : "Mi seedike wonnde Muhammd ko Nulaado Allah". Teemedde e miliyon juuloobe kadi no fillitoo ko yahata laawi sappo e julde mabbe ñannde woo: "Mi seedike wonnde Muhammd ko Nulaado Allah".

f- Sahaabaabe teddube ben:

Sahaabaabe teddube ben ronnditike noddangol Islaamu baawo faatagol Nulaado on (yo o his). Be fuddori ka fudnaage e ka hiirnaange. Be sifori wonnde noddiranoobe diina kan soobee. Ko kambe buruoo yimbe ben sellude haala, buri be mawnude nundal,

ɓuri be hoolaare, ɓuri be kadi rerdangol yimbe ben feewugol saakita moyyere hakkunde maɓɓe.

Be jikkinori jikkuuji Annabaabe ben, be ñemtini be. Ko ɗin jikkuuji battini e yimbe leydi ndin haa be jabi diina kan; be naatiri diina kan dente dente, gila hiirnaange Afrik haa fudnaange Asiya haa hewtoyi nder Orop, rerdangol kaa diina ko aldaa e doolneede.

Ko ben woni sahaabaabe Nulaado Allah on, ɓurɓe moyyude e yimbe ben ɓaawo Annabaabe ben. Ko ɓuri lollude e maɓɓe, ko lomtinoobe feewube ben. Lomtondirɓe e dawla Islaamu on ɓaawo faatagol Nulaado. ko ben woni:

- 1- Abu Bakr As Siddiiq
- 2- Omar ibn al-Khattab
- 3- Uthman ibn Affan
- 4- Ali ibn Abi Taleb

Juulɓe ben hino teddini fii ɓee, hiɓe ɓaɗtora Allah yiɗugol Nulaado Makko on e sahaabaabe makko ben, worɓe e rewɓe, hino mawnini fii maɓɓe, be teddinira be no be hanndiri.

Añoowo be jippina fii maɓɓe, ko yedduɗo diina Islaam, hay si on nodditike wiide Juulɗo. Allah mantirii sahaaba'en daalol Makko:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ... ﴿١٣٠﴾ [آل عمران: 110]

"On laatike moſte burde moy'ude yaltinanaade yimbe ben:hidon yamiraa ko moy'yi hadon ko aſinii,hidon gomdini Allah. " [Al- Imraan: 110].

O holli Himo weltori be fewndo be yeeyondirnoo e Nulaado on (yo o his). Allah daali:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: 18]

"Gomdii Allah welano gomdimbe ben, tuma be ahondiraynoo e maada ka ley leggal. O anndi ko woni kon ka berde maɓɓe, O jippini deeyere nden e maɓɓe, O warjoriibe uddital badiingal, [Al- Fath :18].

4- Tugaale Islaamu den:

Tugaale Islaamu den ko jowi feeñude. Hino waddii juuldo kala jogitagol di haa o gasa noddireede juuldo. Den tugaale:

a- Tugalal Aranal nagl: Ko seedagol reweteedo tanaa Allaahu alaa, e wonnde Muhammadu ko Nulaado Allah.

Ko ngol woni konngol aranol ngol naatoowo diina kala haani feññinde. O wi'a: "Mi seedike reweteedo tanaa Allaahu alaa, e wonnde Muhammdu ko jeyaado Allah e Nulaado Makko", o fiiba ko ngol firti, wano fensitirden ko adii.

O fiiba wonnde ko Allah woni Reweteedo bajjo Mo jibinaa, O jibinaaka, Mo wallondirdo gooto alanaa dum, e wonnde ko Kanko woni tagudo On, ko heddii kon fow ko ko tagaa, ko Kanko tun woni Reweteedo hanndudo e reweede. Reweteedo alaa si wanaa Kanko, Joomiraawo alaa si wanaa Kanko, o fiiba wonnde Muhammadu ko jeyaado Allah e Nulaado Makko, mo wahayu jippori e mun immorde e kammu, yottinanoowo Allah yamirooje e hadaadi Makko, waddiido goongineede doftee e kala ko O yamirta, wodfitee e kala ko O hadi.

b- Tugala d'immal ngal ko: ñinnugol julde

Ko e julde nden ayaawjo jeyankaaku e yankinangol Allah ngol feeñata. Jeyaado on daroo yankinoo, o jannga Aayeeje Alqur'aana den, O mawninira Allah noone kala e jantooje mantooje, O juulana Mo o sujjana Mo. O guundondira e Makko, O toroo Mo e bural Makko mawngal ngal; dum ko humondiral hakkunde jeyaado on e Joomi

Makko taguɗo mo On, Annduɗo gunndo e kene makko, e yitondirgol makko ka sujjugol; ko ɗum woni sabu haa Allah yida jeyaado Makko on, O baɗna mo e Makko, O weltanoo mo. Kala salorɗo julde nden townitanagol jeyankaagu Allah ngun, Allah tikkanaɗ mo, O huɗa mo, on ɗon yaltia e diina Islaam.

Ko waddii kon e den julde, ko ɗe jowi e nder ñallal, coomɗe e daragol, jangga simoore Faatiha nden:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ١ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣
 مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ٤ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٦
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٧﴾ [الفاتحة:
 7-1]

"En fudɗorii Innde Allah, Huubudɗo yurmeende, Heerordɗo yurmeende. Yettoore woodanii Allah, Jeyɗo Winndere nden. Huubudɗo yurmeende, Heerordɗo yurmeende. Jeyɗo ñalngu njoɓɗi. Ko An men rewata, ko An men wallinorta. Feewnu men e laawol focciingol, laawol ɓen ɓen neemindaa e dow mum, hara wanaa laawol ɓen ɓe tikkandaa wanaa majjuɓe ɓen. " [Al Faatiha 1-7].

E jannugol ko newii woo e Aayeeje Alqur'aana ɗen. Hinde yowndiri kadi e rukuu'u (turagol) e sujuudu, e toragol Allah, mawninira Mo wiide "Allaahu akbar" e seninirgol Mo ka rukuu'u wiide : "Subhana Rabbiyal Adhim.", e wi'ugol ka sujuudu : "Subhaana Rabbiyal-A'laa".

Ado tottagol julde nden, ko maa juuloowo on sifitora laabugol e sobe (immorde e hurgo togooso e njano) ka banndu e comci e ka o juulata don, hara himo salligori ndiyam, o loota yeeso e juude makko, o moomra juude e hoore makko nden, refti o loota teppe makko den.

Si tawii himo wonndi e janaaba (sabu yiidugol e debbo makko on) haray hino fawii mo lootagol lonngal.

c– Tugalal tammal ngal : Fii asakal

Dum ko ebboore todfiinde hoore jawdi kun, ko Allah farli e marbe ben fii jonnitugol waasube e miskimbe hanndube e renndo ngon; fii ittagol be annde. Ebboore mun nden ka mbuudi (xaalisi) ko didi e fecco nder teemedere hoore manankun kun, sennditaneen hanndube e mun ben.

Ko ngal tugalal woni sabu saakitagol sekkondiral hakkunde jamaa on, e yidindiro, e suusindiro, e wallindirgol hakkunde mabbe; itta kodnaangu e ngayngu hakkunde marbe e wasube, ko dum kadi woni fii bamtal ngalu, e dillirgol jawle den no haaniri, haa hewta gooto kala e renndo ngon. Ngala asakal non ko waddii ngal e jawle den no foti e waade : immorde e xaalisi, e neemoraadi, e dimde, e gabbe, e hoore jawle, ekw huunde kala e yeru mun.

d– Tugalal nayabal ngal: hoorugol lewru koorka

Hoorugol: ko haditagol ñaamugol, e yerugol, e yottagol e genndo mun hara ko annuyee battorgol Allah, gila ka fajiri ndin feeri haa ko mutal naange.

Lewru suumayee ndu hoorugol farlaa ndun e mun, ko lewru jeenaburu ndun ka lebbi juulbe. Ko e ndun lewru Alqur'aana fuddii jippagol e Nulaado on mo jam e kisiyee woni e mun.

Allah daali:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۗ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ...﴾ [البقرة: 185]

"Lewru korka ndu Alqur'aana jippinaa ndun e mun, ko ndu peewal no e mayru wonande yimbe ben, e banngannduyeeji immorde e peewal, e serndugol (hakkunde goonga e fenaande). Kala e mo'on yi'udô lewru ndun, yo o hooru ndu. " [Al-Baqara: 185.]

Hino jeyaa e nafooje hoorugol, tawde wowntinay muññagol, tiidina fii gomdal e gomdinal ka bernde; ko fii non, hoorugol ko gunndoo wondo hakkunde jeyaado on e Allah, tawde neddo on no waawa ñaamude maa yarude si on weddike, hara gooto anndaa o tayii. Si tawii non o accirii dum doftagol yamatuyeeji Allah dīn tun ko aldaa e sirkangol Mo, hara himo felliti ko Allah tun yellitii e dewe makko den, dum wonanay mo sabu beydagol gomdinal e hulugol Mo. Ko dum wadī si tawii njobdi hoorube ben hino mawni ka Allah, wurin hibe jogii ton damal heeraniingal be, wi'etengal : "rayyaan". Juuldo no waawi hoorugol koorka naafe ko wanaa e lewru suumayee, e nder ñalde hitaande nden fow, ko wanaa ñalaade iidi den didi (julde suumayee e julde donkin).

e- Tugalal jowabal ngal: Hajjugol ka Suudu hormordu.

Hino farlaa e juuldo on hajjugol laawol gootol e nder nguurndam makko dam (si o hebii feere mun), si o beydii don, haray ko naafe. Allah daali:

﴿... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا...﴾ [آل عمران:

[97

"Hino woodani Allah e dow yimbe ben hajjugol ka Suudu [hormordu], wonannde kala hattando dum laawol." [Al- Imraan: 97].

Juuldo on no setoo e nokkuuli rewetddi Makkah ton, nder lewru hajju ndun, ko ndun woni lewru sakkitiindu ndun e lebbi fergu din. Ado o naatude Makkah, juuldo on boortoto comci makko din, o boornoo comci hormordi din; din ko gude didi daneeye.

Refti o wada dewe hajjude ceertude : immorde e wanngagol ka Suudu Kaaba, e yahugol hakkunde Safaa e Marwa, e daragol Arafa, e waalugol Muzdalifa, e ko wanaa dum.

Ko fewndo hajju woni ko juulbe adunaaru ndun burata moobondirde, na hjjjjjjjooono hakkunde mum en musidal e yurmjondirde, hara hibe feñina musidaaku e yurmondiral e laabondiral hakkunde mabbe, comci mabbe e kodande fow ko gootun; gooto e mabbe buraa beya si wanaa ko hulugol Allah. Njobdi hajju ndin ko mawnudi. Nulaado Allah on maaki: "Kala haajjudo, hara o bonnaali (e haala), o yaltaali e dfotaare, o yaltiray e junuubi makko, wano ñalnde yumma makko jibini mo".

5- Tugaale gomdinal ngal:

Si anndaama wonnde tugaale Islaamu den ko dewe feeñude den de juuldo on jokkata, hollayde k o juuldo den, haray hino ton kadi tugaale fibeteede ka bernde, waddiide kala juuldo gomdingol de, fii no diina makko kan sellira. Den no wi'ee tugaale godinal. Tuma kala nde fii majje mawni ka bernde makko de timmi, ko non o beydorta darja gomdinal, o hannda e jeyeede e jeyaabe Allah gomdimbe ben. Ko on darja buri mawnude darja wonnde juuldo on tun. Tawde kala gomdindo ko juuldo, kono wanaa juuldo kala hebata darja gomdial.

Ko pellet, ontigi hino heba fibnde gomdinal, kono hara ngal timmaa.

Tugaale gomdinal ngal ko jeegoo,

ko den woni : "Gomdingol Allah, e Malaa'ikaabe Makko ben, e Defte Makko den, e Nulaabe Makko ben, e Ñalaande Sakkitiinde nden, e gomdingol koddoruyee ko moyyi e mun e ko boni e mun".

Tugalal aranal ngal : ko nde gomdintaa Allah, hebbiniraa bernde maa nden yidugol Mo, mawnina Mo, jippina hoore-mun yeeso Makko, doftoo yamirooje Makko den Kanko tun hara renndinaali Mo. O hebbinira kadi bernde Makko nden kulol Allah, e jortagol ko O jogii kon. Ontigi jeyee ontuma e jeyaabe Allah gomdube jokkuba laawol Makko focciingol ngol.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: 6]

"Tugala dimmal ngal : ko gomdingol Malaa'ikaabe Makko ben, hooloo ko jeyaabe Allah, tagiraabe annoora, gooto andaa limoore duudugol mabbe ka kammuuli e ka leydi si wanaa Allah, be addira fii rewugol, jantoo, subbunhinoo. "Hiibe subbunhinoo jemma e ñaloram, be tay'indirtaa". "Be yeddataa Allah e ko O yamiri be kon; hiibe wada ko be yamiraa". [At-Tahriim : 6.]

Gooto kala e mabbe e golle mun den Allah eltiri dum. Hino ton ronndiibe Arshi on, wodbe no halfinaa yettitugol pitaaali din, wodbe ben jippinira wahayu on ka kammu (on woni Jibriilu, burdo be on darja), wodbe ben halfinaa ngaluuji Aljanna e Yiite din, e Malaa'ikaabe diggube goo, yidube yimbe gomdimbe ben, duddinay be insinanagol be du'anoo be.

Tugalal tammal ngal : gomdingol Defte de Allah jippini den

Juuldo on ko yo gomdin wonnde Allah jippinii Defte e ben Nulaabe be O subii, wondude e kumpite goonga, e yamaruyee nundal immorde e Makko, e wonnde O jippinii Tawreeta e Muusaa, Linjiila e lisaa, Zabuura e Daawuuda, Deri din jippii e Ibraahiima. Den fow heddaaki hannde wano de jippornoo non. O gomdina kadi wonnde Allah jippinii Alqur'aana e dow timmoode e Annabaabe ben (Muhammad jom kisiyee), o hooloo Aayeeje mayre on jippi jokkondiri duubi sappo e tati, Allah reeni nde e wayleede wattitee.

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]

"Menen Men jippinii Deftere nden, ko Menen kadi woni reenoobe nde." [Al Hijri : 9]

Tugalal nayabal ngal : gomdingol Nulaado ben (yewtere fii mabbe yawtii). Ko gomdingol wonnde moftte den fow e jamaanu kala hebii Nulaabe Annbaabe, kafuɓe diina woota, e Joomiraawo gooto. Hibe nodda yimbe ben e wootindingol Allah rewa Mo, be rentina be e keeferaaku, e sirku, e geddi.

﴿... وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: 24]

"Alaa e moftte, si wanaa jertinoowo feyʼyii e mabbe."
[Faatir : 24].

O hooloo kadi ko be banndinke nannduɓe e kala banndinke, be Allah subii ko yottina Nulala Makko ngal:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَعَاتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا﴾ [113] ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [116] ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 163-165]

"Menen Men Wahyinii e maada wano Men Wahyini e Nuuhu e Annabaabe ben baawo makko. Men Wahyini faade e Ibraahiima, e Ismaa'iila, e Ishaqa, e Yaaquuba, Taaniraabe ben, e Isaa, e Ayyuuba, e Yuunusa, e Haaruuna, e Sulaymaana. Men Okki Daawuuda Jabuura. E Nulaabe be Men Fillani maa fii mun ko adii e Nulaabe be Men fillanaaki ma fii mun. Alla Yewtidii e Muusaa Yewtidgol. Nulaabe wewlinoobe e jertinoobe fii wata hujja wonan yimbe ben e hoore Alla baawo Nulaabe ben. Alla Laatike Fooludo, Neeñudo." [An-Nisaa : 163-165].

Ko yo juuldo on gomdimbe fow, o yida be fow, o daranoo fii mabbe fow; hara o burnaali gooto hakkunde mabbe. Mo yeddii gooto e mabbe, maa yenni ontigi, maa o lorri mo, haray o yeddii be fow mabbe.

Ko buri be darja ka Allah, ko timmoode mabbe on Muhammad jom kisiyee on.

Tugalal jowabal ngal:gomdingol ñalaande sakkitiinde nden

Gomdina wonnde Allah immintinoyay jeyaabe ben ka genaale mabbe, O mooba be fow Ñalnde Darngal fii ñaawugol golle mabbe den aduna.

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ۗ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾

[إبراهيم: 48]

"Ñalnde leydi ndin wadtitirtee leydi ngnndi, e kammuuli din, be feeñana Alla, Bajjo On, Fooludo On." [Ibraahiim : 48].

﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾﴾ [الانفطار: 1-5]

"Si wonii kammu ngun seekike, sii koode den kadi saakike, si maaje den kadi puccitaama, si genaale den kadi irtaama; wonkii annday ko ardini e ko sakkintini." [Al Infitaar: 1-5].

﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾﴾

[يس: 77-83]

"E nedđanke on yi'aali, wonde Men tagirii mo e tobbere maniiyu? Kono tawaa mo ko o wennjoowo banngudō! O tinndani Men misal, kono o yejjiti tageede makko; o wi'i: "Ko hommbo wuurnitata yi'e dēn, si dē wudii?" Maaku: "Ko wuurnitoowo dē, ko tagudō dē On ka laawol aranol. Ko Kanko woni anndudō fii kala tagu; On wadandō on yiite, iwde e ledde kecce, tawa ko e majje hubbirton nge. Kere tagudō kammuuli dīn e leydi ndin wonaali hadtandō tagugol yeru mabbe? Dum ko pellet! Ko Kanko woni Duududō tageefo, Anndudō. Pellet woni fjiyaaku mjakko si muuyi hjuunde O daalynde wjon nde wjnja. Senayee woodanii On Mo laamateeri kala huunde woni e juude Mun! Ko ka Makko ruttetedōn." [Yaa- Siin: 77-83].

﴿وَنَضْعُ الْمَوَازِينِ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴿٤٧﴾﴾ [الأنبياء: 47]

"Men wadā manndikirde Nundal ngal fii Ñalnde Darngal hara wonkii woo toñiroytaake hay e huunde, hay si laatii ko yeru gabbun pamarun Men adday kun Men yonii Hasboobe." [Al- Anbiya': 47].

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾﴾ [الزلزلة: 7-8]

"Kala golluđo ko ɓuri fandude e moy'ere (yeru gabbun jarra), o yi'ay njoddi mun. Kala kadi golluđo ko ɓuri fandude e bone (yeru gabbun jarra), o yi'ay njoddi mun." [Az-Zalzalah: 7-8].

Dame Yiite ngen udditanee ben be tikkere e lette Allah den joggi e mun, dame Aljanna den kadi udditanee gomdimbe gollunoobe golle moyye ben. Malaa'ikaabe ben no jabboobe [be wi'a:]

﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ

تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾ [الأنبياء: 103]

"Ko ndee woni Ñalaande mon nden nde wonanodon fodeede". [Al-Anbiyaa' : 103].

Yeddube ben soggiroyee ka Jahannama dente-dente. Haa si be hewtii nge, dame magge udditee, reenube nge ben wi'ana be:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ فَبئسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُهُ مِنَ الْغَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۗ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾﴾ [الزمر: 71-75]

[75]

"E Nulaabe jeyaabe e mo'on hewtaano on, janngaynoobe Aayeeje Joomi mon, e moodon, be rentina on hawrugol e ndee ñalaande mon?" Be wi'a: "Ko non tigiri, kono Konngol lepte ngol, joggiino e yeddube ben". [Be] wi'anee: "Naatiree dame Jahannama den luttugol ton. Nge bonii jaay'orde mawnintiniibe ben !". Hulooobe Joomi mun ben kadi dowitiree ka Aljanna, dente-dente. Haa si be hewtii mo, dame makko udditee, reenube mo ben wi'ana be: "Kisiyee wonii e mon, on laabii, naatiree mo, duumagol". Be wi'a ontuma: "Yettoore woodanii Allah, laatinando men fodoore Mun, O ronini men leydi [Aljanna] ndin, meden weerira e Aljanna on, kala ka men yidi". Mbarjaari gollunooobe moy'ere ben moy'ii". [Az-Zumar: 71-75].

Oo Aljanna mo neemaaji woni e mun, di tawata gite yi'aalu, nowru nanaali, wanaa sakko bernde miijo fii mun.

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^{١٧}
 أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا
 فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ
 النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِء تَكْذِبُونَ ﴿٢٠﴾ [السجدة: 17-20]

"Wonkii (woo) anndaa ko maranaa ƙe e ko buɓɓinta ƙernde, dɓm ko njobdi ko ƙe gollaynoo kon ! E ko on laatiido gomdindo wa'ata wa faasiqiijo on? (aa'aa), ƙe fotataa. Si ko ƙen gomdimbe ƙe golli golle moy'ye, hino woodani ƙe Aljannaaji weerde jipporde, sabu ko ƙe gollaynoo kon. Si tawii non ko ƙe faasiqiiɓe, haray femporde ƙen don nden, ko ka Yiite: Tuma kala ƙe faalaa yaltugol e magge, ƙe ruttitee e magge, ƙe wi'anee: "Meedee lepte Yiite nge fennayodon ngen". [As-Sajdah: 17-20].

Ko woni sifa Aljanna fodaado on gomdube ƙen:

﴿... فِيهَا أَنْهَرُّ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ عَاسِنٍ وَأَنْهَرُّ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَرُّ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَرُّ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد: 15]

"candi ndiyam di dakamme mun waylotaako hino ton, e candi bira di waylataa dakamme mun, e candi konjam welaydam yaroobe, e candi njuumri labbinaandi. Hino woodani ƙe kadi ton : kala dimbe, e haforaneede immorde e Joomi mabbe. [Ben wa'ay] wa luttinoyteeebe ƙen ka Yiite, ƙe yarnee ndiyam fataydam, dam tay'a tetekki mabbe din?" [Muhammad : 15]

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَكِهِينَ بِمَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَلَهُمُ رَبُّهُمْ
عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرٍ
مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾﴾ [الطور: 17-20]

"Pellet, gomdube ben hino e Aljannaaji e neemaaji, ko be dakimitotoobe kon ko Joomi maɓbe okki be, Joomi maɓbe daɗɗi be lette Jahiimi den. [‘Be wi’anee] : "Ñaamee yaron, ko on hanndirbe dūm, sabu kon ko gollaynodon, hara ko on sobbindiibe e hoore dande weertindiraade", Men resina be kadi yooda giteebe". [At-Tuur: 17-20].

Yo Allah wadu en fow yimbe Aljanna.

Tugalal jeegabal ngal: gomdingol koddoruyee ko moyyi e mun e ko boni e mun

Gomdina wonnde kala dillannde e aduna on, ko hoddirua Allah winndaado ka Makko.

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ
أَن نَّبْرَاهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾﴾ [الحديد: 22]

"Bone woo hebataa [on] e leydi ndin maa e pittaali mon dīn, si wanaa dūm woniino e deftere ado Men tagude ndee [tagoore]. Pellet, dūm ko ko newanii Allah". [Al-hadiid : 22].

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾﴾ [القمر: 49]

"Menen Men tagirii huunde kala e koddoruyee" [Al-Qamar: 49].

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ

عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ [الحج: 70]

"E a anndaali wonnde Allah no anndi ko woni kon ka kammu e ka leydi? Pellet, dūm no e nder deftere. Pellet, dūm ko ko newanii Allah". [Al-hajj: 70].

Kala timminirɗo dee tugaale ɗoo jowi gomɗingol ɗe, o tewete e jeyaɓe Allah gomɗimbe ben. Tagoore nden hino burda darja gomɗinal. Ko buri non mawnude darja e gomɗinal, ko moyyingol ngol golle, ko dūm woni : rewirgol Allah wa si tawii hida yi*ai Mo, si tawii le a yi*aani Mo, Kanko kan himo yi*u maa. Ko ben siforii be non woni subaabe tagoore nden, marbe darjaaji Aljanna ɗin ka jipporde Firdawsi.

6- Tinndinooje e jikkuuji Lislamu dīn:

a- Yamiraafi dīn:

E hino yoga e jikkuuji e neediiji Lislamu rerdīnaadi ne'itrogol renndo juulbe ben, hiden ñogga seeda e majji. Din neediiji ko e bullitirde islaamu den woni, wano Deftere Allah nden, e Hadiiseeje Nulaado Allah mo jam e kisiyee woni e mun on.

Aranun dum : Ko wowlugol goonga:

Islaamu hino waddini juulbe ben fow wowlugol goonga, o wadi dum jikku mabbe mo dagotaako accitugol, o rentini be e fenaande nden hattirde e rentingol, o woddintini be e mayre no buri e banngirde sifa e konngol. Allah daali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]

"Ko on yo gomdimbe, hulee Allah laatodon e goongube ben". [At-Tawbah: 119].

Be maaki kadi: "Mi yamirii wowlugol goonga, sabu goonga kan hino e diggere, diggere nden kadi hino fewna e Aljanna. Neddo seeratah hino wowla goonga, o faanditanoo goonga haa o winndee googudo ka Allah. On hadaama fenugol, sabu fenaande hino dowa e bonki, bonki kadi no dowa haa ka Yiite. Neddo seeratah hino fena, o jikkinora fenaande haa o winnde fenoowo ka Allah".

Fenaande wanaa jikku gomdindo, dum ko naafiqi anndiraa ¹. Nulaado Allah mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: "Maande naafiqi ko tati: Si o yeewtii o fena, si o fodii o lunndo, si o hoolaama o janfoo"².

Ko dum wadi si Sahaaba en jikkinori sifa goonga, haa godfo e mabbe wi'i: "Menen men andaano fenaande fewndo Nulaado Allah mo jam e kisiyee woni e mun on".

Dimmun dum : ko tottugol hoolaare, hunna ahada, nunda hakkunde yimbe ben:

Allah daali:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾... ﴿٥٨﴾ [النساء: 58]

"Pellet, Allah no yamira on tottugol koolaaje den faade e jom majje, e si on ñaaway hakkunde yimbe ben ñaawiron nunda". [An-Nisaa'58].

O daali kadi:

¹ Naafiqi: ko feññinoowo juuldude, kono hara tigi on wanaa dum o fibi ka bernde makko.

² Ko Bukhari fillii mo ka deftere gomdinal, damal: maande naafiqi (1/15).

﴿... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا

بِالْقِسْطِ أَلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾﴾ [الإسراء: 34-35]

"Humnee ahadi; (anndon) pellet, ahadi ndin ko lamnditoyteendi fii mun. Hunnon kadi betu ngun si on etay, manndikiron manndakke fotondirdô; ko dūn moy'yi, buri moy'yude battane". [Al-Israa: 34-35].

O mantiniri gomdimbe ben daalol Makko:

﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾﴾ [الرعد: 20]

"ben hunnoobe ahadi Allah ndin, be firtataa ahodal". [Ar-Ra'd: 20].

Tammun dum: Ko yanʒkinagol hara townitaaki:

Ko Nulaado Allah on (yo o his) burnoo yimbe ben yanʒkinagol, be toolorayno hakkunde sahaaba en wano gooto e mabbe; wurin be yidaano goddo immanoo be. Mo hatonjiniino e mabbe o nanngayno be tun sookewo ngon, be yaada be huntana mo haaju. Be yamiri juulbe ben yanʒkinagol, be maaki: "Allah wahayinii e am wiide yo on yanʒkino, wata gooto e mon mantano oya, wata o bewu kadi e gooto"³.

³ Ko Muslim fillii mo (17/200) ka deftere : Aljanna, sifaaji di yimbe Aljanna anndirtee.

Nayabun dum: Ko okkugol, e wintagol e moyƴere.

Allah daali:

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 272]

"Kala ko wintidɔn e moyƴere, ko fii wonkiiji mon. Hara on wintoraali si wonaa daɓɓugol yarluyee Allah. Kala ko wintidɔn e moyƴere, on hunnanoyte dɔm, hara on tooñetaake". [Al-Baqarah: 272].

Allah mantirii gomɗimbe ben ka O daali:

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: 8]

"Hiɓe okkira ñaamete e dow yidɣgol mo : miskimɓe, e wondube, e dahaabe". [Al-Insaan : 8].

Okkugol e teddungal ko jikku Nulaado e kala ñemtindo be e gomɗimbe ben. O heddintaa godɗum e jawdi makko ndin si wanaa o wintoto dɔm e moyyere. Jaabir (yo Allah wele mo) - gooto e sahaababe Nulaado on - wi'i: " "Nulaado Allah mo jam e kisiyee woni e mun on meedaaka lamndeede huunde, be maaki: oo'o". Ko non kadi be rerɗiniri e teddingol kodo, be maaki: « Kala gomɗindo Allah e Ñalaande Sakkitiinde nden, yo o teddin kodo makko on. Kala kadi gomɗindo Allah e Ñalaande Sakkitiinde nden, yo jokko e endam

makko dam. Kala kadi gomdindo Allah e Ñalaande Sakkitiinde nden, yo o wowlu ko moyyi maa o fanka»".

Jowabun dum: Ko muñagol ronnditoo lorra:

Allah daali:

﴿يَبْتَىٰ أَقِيمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [لقمان: 17]

"Muñño-daa e ko hebu-maa. Pellet, dum ko jeyaadam e fiyakkuji mawdi". [Luqmaan: 17].

O daali kadi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 153]

"Ko onon yo gomdimbe, wallitree muñal e julde. Pellet, Allah no wonndi e munñiibe ben". [Al-Baqarah: 153].

O daali kadi:

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 96]

"Ma Men warjor muññiibe ben njobdi mabbe ndin ko buri moy'ude ko e be gollaynoo kon". [An-Nahl : 96].

Hari Nulaado mo jam e kisiyee woni e mun on no burnoo yimbe ben muñal, e ronnditagol lorra, be yottortonaako bone on bone. Yimbe makko ben lorrano be fewndo o noddaynoobe e Lismaam, be yani e makko haa yiyam makko ili, kono o fitta ñam, o maaka: "Allah yaafano yimbe am ben, tawde be anndaa"⁴.

Jeegabun ñam: Ko hersugol

Juuldo ko nefoowo, hersoowo. Herso non ko gebal e gebe liimanaaku. Ko ñam duñata juuldo e kala jikku moyyo, haña ontigi e jeesere, e faahishaaku konngol e kuugal. Annabiijo on mo jam e kisiyee woni e mu maakii : "Hersa ko jam tan addata".

Jeedidabun ñam: Ko diggangol mawbe ben

Diggangol mawbe ben, moyyoo e mabbe, joltinana be gabitanji ñam, ko ko waddii e diina Islaamu kan. Teñtini no be toowirta non e duubi, fewndo ka burata ñam hatonjinnde e gemaalbe mabbe ben. Allah yamirii doggangol neene e baaba ka Deftere Makko, O teñtini mawnugol on haqqee mabbe, O daali:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ
 الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
 كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
 صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ ﴾ [الإسراء: 23-24]

⁴ Ko Bukhari fillii mo ka deftere murtube ben, damal 5 (9/20).

"Joomi maa yamirii : "Wata on rewu ko wanaa Kanko, e moy'agol e jibimbe ben: si nayewu godɗo e mabbe yottike ma, maa hara be dɗo non, wata a wi'an be "bis!", wata a wikko be, wowlan be konngol teddungol. Yankinanodaɗa be yurmedaɗa be, wi'aa: « Joomi an, yurme be'e, wano be ne'irnoo lam ko mi tosokun »". [Al-Israa: 23-24].

O daali kadi:

﴿... أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَا دَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: 14]

"Men yamirii nedɗanke on [ɗoftagol] jibimbe mo ben; yumma makko saawirii mo lo'ere e hoore lo'ere: entugol mo ngol, ko e nder duubi dɗi. "Wonnde yettam e jinnaabe maa ben. Ko ka Am woni ruttorde nden". [Luqmaan: 14].

Gorko goo lamndino Annabiijo on (yo o his): Ko hommbo e yimbe ben ɓuri hanndude e mo mi moyyotoo e mun? Be maaki: "Ko yumma maa, o lamndii hommbo kadi? Be maaki: " Yumma maa. O lamnditii hommbo kadi? Be maaki: "Yumma maa". O lmanditii hommbo kadi? Be maaki: "Baaba'en maa"⁵.

Ko dum wadi si Islaamu on waddini e juulɗo on ɗoftagol mawbe makko ben e kala ko be yamirta mo; si wanaa hara ko fii yeddugol Allah, ontuma ɗoftaare alanaa tagaado, e ka tagudo On yeddetee. Allah daali:

⁵ Ko bukhari fillii mo ka deftere fii needi, damal fii ɓurɗo hanndude e moy'feede e mun (2/8).

﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
 وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ ۚ إِنَّهُ يَرْجِعُكُمْ
 فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾﴾ [لقمان: 15]

"Si be tiidhorii ma fii sirkangol Lam e ko a alanaa dūm ganndal, wata a dofto be; wonndir e mabbe moyy'ere ka aduna". [Luqmaan: 15].

Ko non wadfordi mo teddinirgol be konngol e kuugal, teddina fotde baawal mun on, immorde e kala noone e diggere; wano ñammingol be, hooltina be, ñawnda be si be fooyii, pottina be e lorra, du'anoo be, insinanoo be, hunna ahadi mabbe, teddina weldiibe mabbe.

Jeetatabun dūm: Ko moyy'ingol jikku mun e heddi be ben:

Annabiijo on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: "Ko buri timmude e gomdimbe ben gomdinal, ko burde on moyyude jikku"⁶.

⁶ Ko Abu Daawuud fillii mo ka deftere sunnah, damal ko tinndinta e beydagol maa duytagol (6/5), e Tirmidhi ka deftere fii muyningol, damal ko joli e haqqee debbo e hoore genndo mun (3/457). Tirmidhi wi'i: ko moyy'o, selludo ka ñaawoore Albaani: ndaaru sahih Abi Daawuud (3/886).

Be maaki kadi: "Mo mi buri yidude on e mon, e buroowo lam on badaade nokku Ņalnde Danrgal, ko burdo on moyyude on jikku"⁷.

Allah sifori Annabiijo mo jam e kisiyee woni e mun on, wiide:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]

"Pellet, hidâ e jikku mawdo". [Al Qalam : 4].

Nulaado Allah maaki: "Ko mi nuliraa ko timmingol kijjuji moyyi din". Tippude e dum, hino waddii e juuldo on moyyugol jikku e mawbe makko ben, diggadana be wano yawtiri e yewtere men, o moyyoo e bidbe makko ben, o ne'ira be needi moyyiri wonndude e neediiji Islaam, o woddindina be e kala ko lorrata be aduna e laakara, o nafqa jawdi makko ndin fii mabbe haa be waawana hoore mabbe. O moyyoo kadi e debbo makko on, e musidbe makko ben worbe e rewbe, e badondiraabe mabbe ben, e kawtal makko ngal, e yimbe ben fow. O yidana musidbe makko ben ko o yidani kon hoore makko. O jokkoo e endam makko dam, o teddina mawdo mabbe, o yurmee togooso mabbe, o juuroo o yelliitoo jarribaado e mabbe; gollitirgol daalol Allah:

﴿...وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي

الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ...﴾ [النساء: 36]

⁷ Ko Bukhari yaltini mo ka deftere fii jikkuuji moyyi, damal sifaaji Annabiijo on (4/230) ka be maaki: "Ko buri on moyyude, ko burdo e mon on jikku".

"Moƴƴee e Jibimbe on ben, e joomiraabe ɓadondiral'en, e wondube ben, e waasube ben, e kawtaljo jom-ɓadondiral, e kawtal baŋŋe, e wonndiddo baŋŋe, e bii laawol". [An-Nisaa': 36].

E maaku mabbe : "Kala laatiido no gomɗini Allah e Ñalaande Sakkitiinde nden, wata on lorry kawtal makko"^{8,9}

Sappabun ɗum: Ko du'agol e jantagol jannga Alqur'aana:

Ko non gomɗinal neddo on beydori woo, o burata humondirde e Allah, o toroo Mo, o yankinonara Mo fii no O humta haajuuji makko aduna, e yaafanagol junuubi e goopi makko, e ɓamtaneede darjaaji ka laakara. Allah ko Tedduɗo, Dokko, Yiɗuɗo toreede. O daali:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186]

"Si jeyaabe Am ben lamndike ma fii Am, haray ko Mi ɓattiido. Mido jaabina toraare torotoodo si o torike Lam". [Al-Baqarah: 186].

⁸ Ko Imam Ahmad fillii mo ka Musnad (17/80).

⁹ Ko Bukhari fillii mo ka deftere fii needi, damal : kala gomɗindo Allah e ñalaande laakara nden, wata o lorry kawtal makko. (8/13).

Allah noototo kala toriido Mo, si tawii ko moyyo wonande jeyaado on O rokka mbo baraaje nden toraare.

Hino jeyaa kadi e jikkuuji gomdindo, dudfinorgol jantagol Allah jemma e ñalorma, kenen e gunndoo; O mawninira Allah noone kala e mawningol. Jantagol Mo ngol, ko wano wiide: Subhan Allah, wa alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wa Allahu akbar, e nanndi e mun. Allah no marani dum njobdi e mbarjaari mawndi. Nulaado Allah mo jam e kisyye woni e mun on maaki: Teeltube ben aditike. 'Be wi'i: ko hombe woni weddotoobe ben, Nulaado Allah? 'Be maaki: "ko janntotoobe Innde Allah ben ko duudi ka worbe e ka rewbe"¹⁰. Allah kadi daali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾﴾ [الأحزاب: 41-42]

"Ko onon yo ben gomdimbe, jantoree Allah jantoree duudunde, Seniniron Mo bimmbi e kiikiide. [Al-Ahzab: 41-42].

O daali kadi:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾﴾ [البقرة: 152]

¹⁰ Ko Muslim fillii Hasdiise on, ka deftere janntoore e toraare, damal fii rerdingol e janntoore (4/17).

"Janntee Lam, Mi anndita on, yetton Lam hara on yeddaali Lam". [Al-Baqarah: 152].

Hino jeyaa e jantagol Mo, jannugol Deftere Makko nden (Alqur'aana teddunde nden). Ko no jeyaado on duddiniri woo jannugol Alqur'aana, o taskoo nden, darja makko on beydorta ka Allah.

Janngoowo Alqur'aana on wi'anoyte Ñalnde Darangal: "Janngu, yawaa wano janngirayno-daa ka aduna; anndaa nokkuure maa nden, ko ka sakkitorde Aaya mo janngayno-daa"¹¹.

Sappo on: ko jannugol sari'a Islaamu on, janngina yimbe ben e nodda e mun:

Nulaado Allah on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: "Kala rewudo laawol, hino dabba ganndal, Allah newninay mo laawol haa ka Aljanna. Ko pellet, Malaa'ka en hino joltinana gabitanji mun dabboowo ganndal, weltorgol ko on wadata".

Be maaki kadi: "Ko buri moyyude e mon, ko on anndiniido Alqur'aana, o anndini nde". Be maaki kadi: "Malaa'ika en juulay e jannoowo yimbe ben, moyyere". Be maaki kadi: "Kala noddudo e moyyere, o hebay njobdi yeru njobdi gollitirido on, e hoore be duytantaake huunde e njobdi mabbe ndin".

Allah daali:

¹¹ Ko Abu Daawud fillii mo (1464), e Tirmidhi (2914), e Nasaa'ii ka sunan al-kubra (8056) e Ahmad (6799).

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ

الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: 33]

"Hara ko hommbo buri moy'ude konngol, wano on noddudo e fii Allah, o golli moy'ere, o wi'i: "Min, ko e juulbe ben mi jeyaa?" ". [Fussilat : 33].

Sappo e didi on: ko welegol ñaawoore Allah e Nulaado Makko on:

Ko salagol lunndaade sari'a Allah burdo ñeeñude on e burdo yurmeende on; Mo huunde suudaaki dum ka leydi wanaa ka kammu, Mo ñaawoore Mun battinortaa mbeleede jeyaabe e dunndaranke. Hino jeyaa e yurmeende Makko nden, tawde O sari'nanii jeyaabe Makko ko moyyanta be aduna e laakara, O fawaa be e dum ko be townataa, e jeygol kaaku Makko ngol, ñaawitorgol ko O sar'ini kon e kala huunde, hara ontigi hino hatti e weltorgol dum.

Allah daali:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65]

"Hey, Mi Woondirii Joomi maada, be 'timmiŋta gomɗinal haa be ñaawinora maa ko yani kon hakkunde maɓɓe, refti be hebataa bitteende ka pittaali maɓɓe e kon ko ñaawuda, be jebbiloo jebbilagol". [An-Nisaa': 65].

O daali kadi:

﴿أَفْحُكَمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

[المائدة: 50]

"E ko ñaawoore majjuyankoobe daabbata? Ko hommbo buri Allah ñaawoore wonannde yimbe yananaabe?" [Al Maa'idah: 50].

Jeenayabun dum: ko habugol fii Allah, wallitoo tooñaado, jonnita jom goona on goonga makko, saakita nundal.

Allah daali:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]

"Habiree fii Allah ben haboobe on. Wota on jaggitu, pellet, Allah yidaa jaggitooobe ben". [Al-Baqarah: 190].

O daali kadi:

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا

مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ [النساء: 75]

"E ko hebi on, on habidetaake fii laawol Allah ngol? Lo'inaabe ben ka worbe, e ka rewbe, e ka faybe wi'oobe: "Joomi amen, yaltin men e ndee saare nde yimbe mun tooñi, waɗaa min yiɗaabe ka Maada, waɗanaa Men wallaabe ka Maada". [An-Nisaa': 75].

Faandunnde habugol e laawol Allah ngol, ko tabintingol goonga, saakita nundal hakkunde yimbe ben, haba tooñoobe yimbe ben sakkoo be haɗa be rewugol Allah e naatugol Islaam. E hoore dum, Himo aña doolugol yimbe ben fii naatugol e diina Islaamu kan. Allah daali:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ... ﴿٢٥٦﴾﴾ [البقرة: 256]

"Doolugol alaa e diina Allah kan". [Al-Baqarah: 256].

Fewndo ka habugol, sellanɗaa juulɗo warugol debbo maa paykun maa nayeejo, ko tooñube ben tun o habidata e mun.

Kala waraafɗo fii laawol Allah ngol, haray ko yando sahiidi, mardɗo martaba, e njobdi e mbarjaari ka Allah. Allah daali:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزِّقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾﴾ [آل عمران: 169-170]

"Wata a sikku waraabe ben fii laawol Allah ngol ko maayube, si ko woni: ko wuuruɓe ka Joomi maɓɓe hiɓe arsikee, hiɓe weltora ko Allah okki ɓe kon e ɓural Makko, hiɓe wewlira ben [sidɓe] maɓɓe ɓe ɓe hawraali e mun ɓaawo maɓɓe, wonnde kulol alanaa ɓe, wanaa kamɓe woni ko sunoytoo". [Al-Imraan: 169-170] .

b– Harminaafi ɗin e haɗaafi ɗin:

Aranun ɗum: Ko sirku (kafidugol Allah e godɗum goo)

wano sujjanooowo ko woori Allah maa toragol ko wanaa Allah, dabbira ɗum humtaneede haaju, maa hirsana baɗtorgol godɗum goo ko wanaa Allah, maa jonnitugol jeyanɗaaku ngun ko woori Allah; foti non hara ko ko wuuri ɗum waɗanaa maa hara ko ko maayi, maa hara ko gaburu maa hayre maa leggal maa laamɗo maa Annbaajo maa waliyaajo maa kullun m. ko wanaa ɗum, fow e mun ko sirku mo Allah yaafanɗaako jeyaado huuwudo ɗum si wanaa hara O tuubu o naatiti Lislām.

Allah daali:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ

بِاللَّهِ فَقَدْ أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ [النساء: 48]

"Pellet, Allah yaafantaako kafidoowo Mo e goddum, Himo yaafaonoo ko jaasi dum wonannde on Mo O Muuyi. Kala kafidudo Allah goddum, gomdii haray o fepindiima bakkaatu mawdo". [An-Nisaa'i: 48].

Juuldo rewataa si wanaa Allah, o torotaako si wanaa Allah, o hoynantaako si wanaa Allah. Allah daali:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾﴾ [الأنعام: 162-163]

"Maaku : "Pellet, julde am nden, e kirse am den, e nguurndam am dam, e maayde am nden, ko Allah woodani, Jeydo Winndere nden". Kafidiido alanaa Mo! Ko dum mi yamiraa, ko mi woni arano e jebbiliibe ben". [Al An'aam :162-163].

Hino jeyaa e sirku: fibugol wonnde Allah no mari genndiraawo maa bidde - senayee woodanii Mo e dum - maa fiba wonnde ko rewetee goo hino woodi ko wanaa Allah.

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [الأنبياء: 22]

"Hara nun hino e [kammuuli e leydi ndin] rewteedo ko wanaa Allah, di bonayno, senaare woodani laado arsi e kove sifato ko". [Al Anbi'aa: 22].

Didi on : ko mbilewu, e ndureyaagal, e nodditagol anndugol ko wirnii:

Mbilewu e ndureyaagal, ko keeferaaku. Tawde mbileejo ko maa humondira e seytaane, o doftoo di o acca Allah; ko dum wadi si dagantaako juulɗo, yahugol ko mbileebe ben maa goongina be e ko be fenata be fewna e wiigol hibe anndi ko wirnii maa ko wadata.

Allah daali:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ

يُبْعَثُونَ﴾ [النمل: 65]

"Maaku: "Wonube ben ka kammuuli e ka leydi anndaa ko wirnii si wanaa Allah." [An-Naml : 65].

O daali kadi:

﴿عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ

يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ [الجن: 26-27]

"Ko Kanko woni annduɗo ko wirnii, O fenñinantaa hay gooto wirniidi Makko ɗin; si wonaa on mo O welanaa immorde e Nulaaɗo, O nabiray on ɗon teleren yeeso makko e ɓaawo makko aynoobe". [Al Jinn : 26- 27].

Tati on : ko tooñe:

Tooñe ko damal yaajungal, ngal golle bonde duudude naatata e mun, battinayde e nedɗo; hino e mun tooñugol hoore mun, e

tooñugol wofbe goo, e tooñugol renndo ngon e tooñugol aybe mun.
Allah daali:

﴿.. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ﴾

[المائدة: 8] ﴿٨﴾

"Wata tikkangol yimbe duñu on haa ronkon nundude. Nundee, ko dum buri badtaade gomdal ngal". [Al Maa'ida: 8].

Allah humpitii en wonnde O yidaa tooñoobe ben. Nulaado mo jam e kisiyee woni e mun maaki: Allaaahu toowudo On daali: "Ko onon yo jeyaabe Am, Min Mi harminii tooñe e hoore Am, Mi wadii dum kadi ko harminaa hakunde mon, wata on tooñidir".¹². Be maaki kadi: Wallo musidfo maa on si o tooñu maa o tooña. Gorko goo wi'i: Nulaado Allah, mi wallay mo si o tooñaama. Yeeto lam non si taw o tooñu, ko honno mi wallirta mo? Be maaki: "Ko yo a heedo mo, maa hadaa mo tooñugol; ko dum woni wallugol mo"¹³.

Nayi on : ko ittugol wonkii ki Allah harmini warugol si wanaa e hoore goonga

¹² Ko Muslim fillii mo ka deftere diggere e jukkere endam e neediiji, damal harmingol tooñe (16/132).

¹³ Ko Bukhari fillii mo ka deftere tooñe e wippagol, damal wallu musidfo maa on si o tooñu maa o tooña (3/168).

Dum ko bone mawdo ka diina Islaam, Allah kammbiranii dum lette muusude, e yaggineede aduna warugol wardo on, si wanaa haraa waranaabe ben yaafi mo. Allah daali:

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُورِثَ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...﴾ [المائدة: 32]

"Ko sabu dum Men farliri e bidbe Israa'iila ben, wonnde: "Kala wardo wonkii hara wanaa yottanagol wonkii maa (o) bonni ka leydi, haray o wa'ii wa wardo yimbe ben fow, mo wuurnii ki kadi, o wa'ii wa wuurnudo yimbe ben fow". [Al Maa'ida: 32].

O daali kadi:

﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُوهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]

"Kala wardo gomdindo e hoore teyde, njobdi makko ndin ko Jahannama, luttoowo e nder magge; Allah tikkani mo, O hudii mo, O hebilanii mo lette mawde". [An-Nisaa': 93].

Jowi on: Jaggitugol e jawle yimbe ben

Foti non ko wujjugol maa jattugol maa ñaamirgol ndi ngeenaari ma daynugol maa ko wanaa dum. Allah daali:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ [المائدة: 38]

"Ngujjo [gorko] e nguizzo [debbo]: tay'ee juude maɓɓe ðen, njobdi ko ɓe faggitii kon, ðum ko lette immorde ka Allah. Allah ko Fooluɗo, Ñeeñuɗo". [Al Maa'ida: 38].

O daali kadi:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ [البقرة: 188]

"Wata on ñaamir jawle mon ðen hakkunde mon e hoore meere. [Al Baqarah: 188].

O daali kadi:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾ [النساء: 10]

"Ben ñaamirooɓe jawle alyatimeeɓe ɓen e hoore tooñee, (anndee) pellet, ko ɓe woni ñaamude kon ɓe waɗa e deedi maɓɓe, ko yiite, arma ɓe naata e huɓɓunge". [An-Nisaa': 10].

Islaam hino haɗo jaggitugol jawle yimbe ɓen, kammbirani jaggitoobe ɓen lette sadtude wonannde jiiibitoobe ngam furoo mbo e yeu mum bonnoove yuvvudi e renndo ngon.

Jeegoo on : Ko fuuntude, hoda e firtude aadi.

Noone kala e hiilugol, foti ko ka ngeyngu maa ka yeeyugol ekw, fow e mun ko sifaaji ŋiñaadi di Islaamu hadi rentini e mun.

Allah daali:

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّينَ ۝١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥﴾
[المطففين: 1-5]

"Bone woodanii be juurintaa ben; ben tawbe si etanaama e yimbe ben, be timminɗaa, si be etanii be maa be mannikanii be, be duyta. E bee kan fellitaa wonnde ko be immintinteebe ñalaande mawnde? Ñalnde yimbe ben immoytoo fii nootagol Jeydo tageefo ngon". [Al Mudaffiifiin 1-5].

Nulaado Allah on maaki: "Kala janfiido men, o jeyaaka e amen"¹⁴.
Allah daali:

﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا ۝١٧﴾ [النساء: 107]

¹⁴ Ko Muslim fillii mo (2/109).

"Pellet, Allah yidāa on janfotoodō, bakkondindō : [An-Nisaa'i: 107].

Jeedifi on : ko jaggitugol e yimbe ben

Jaggitirabe yennugol be, ño'a be, haasidoo be, e sikkitagl be, e fese-fesennagol be, e jalgitugol be ekw. Sabu Islaamu hino etoo ñiibnugol renndo laabungo, ka giggol e musidaaku e wallindiral hoonoto, himo haba kala nawnaaje jii-bitayde renndo ngon, e kala ko addata firtaade saatika ngayngu e yidugol hoore-mun tun hakkunde mabbe.

Allah daali:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾﴾ [الحجرات: 11-12]

"Ko onon yo ben gomdĩmbe! Wata yimbe jalnor yimbe : hino gasa hara ben (jalaabe) hino buri be moy'ude. Wanaa rewbe woni ko jalnorta rewbe : hino gasa hara ben no buri be moy'ude. Wata on aybidnir ko'e-mon, wata on bugondir jammooje (bondẽ). Innde faasiqaaku nden bonii baawo nde gomdĩnal nden. Kala mo tuubaali, ko ben woni tooñube ben. Ko onon yo ben gomdĩmbe! Wodđitee e ko dũudi e sikke. Pellet, yoga e sikke ko bakkaatu. Wata on widõndir, wata yoga mon ño'u yoga. Hara gooto e mo'on yiday ñaamugol teewu musidđo mun maayđo? Hidõn añi dũm. Hulee Allah. Pellet, Allah ko Jaboowo tuubuubuyee, Hinnotođo". [Al Hujuraat : 11-12].

Ko non kadi Islaamu habiri leyyi-leyyi e burdingol hakkunde yimbe ben; fow no fota yeeso diina kan, aarabeejo buraa njam, wanaa daneejo buri baleejo si wanaa ko gooto e mabbe burdiri kon oya diina e gomdal ka bernde mun. Fow ko yo foolotir e golle moyye den. Allah daali:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 13]

"Ko onon yo yimbe! Men tagiriii on immorde e gorel e deyel, Men wadiri on ley'yi e gori, fii yo on anndindir. Pellet, burbe teddude e mon ben ka Allah, ko burbe gomdũde ben e mon. Pellet, Allah ko Annduđo, Humpitiidõ". [Al Hujuraati 13].

Jeenay on: Ko fijugol karte,-wure- e yarugol beere e surtugol simme dorog.

Allah daali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْكَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾﴾ [المائدة: 90-91]

"Ko onon yo gomdĩmbe, annde siwram dām, e karte dēn, e sanamuuji dīn e payaloy koy [fow] ko sobe jeyaadūm e golle seytaane,wodđitee dūm, belajo'o, on maloyte. Anndee ko seytaane faalaa, ko nde o libata ngayngu e konnaagu hakkunde mo'on ka siwram e ka karte, o faloo on gaay e jantagol Alla e julde nden. Hara onon ko on hadītotoobe?". [Al Maa'ida : 90-91].

Jeenay on : Ko ñamugol teewu jiibe, e yiyām e teewu kose.

E denndaangal sobe lorryde neddo on, maa ñaamugol ko hirsiraa ko woori Allah daali:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
 إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
 لِعَٰغِبٍ ءَللَّهُ فَمَن أَضْطَرَّ غَيْرَ بَٰعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾﴾
 [البقرة: 172-173]

"Ko onon yo ben gomdimbe! Naamee laabudi di Men
 arsiki on din, yetton Allah, si wonii ko Kanko rewoton.
 Anndee ko O harminani on: Ko ko maayi jiibi, e y'iyy'am, e
 teewu kose, e kon ko hirsiraaka innde Allah. Kala non
 duñaado (e ñaamugol ko harmi kon) hara wonaa bewdo
 wonaa jaggitudo, bakkatu fawaaki mo. Pellet, Allah ko
 Haforoow, Hinnotoodo". [Al Baqarah : 172-173].

Sappo on: ko jeenugol maa luutiyaagal

Jeeno, ko kuude ñiddude, bonnayde jikku e renndo, wona sabu
 haa dammbe jillondira, beynguureeji yeeboo, needi moyyundi
 waasa. Bidbe jinaa ben kadi, be so'ya on bone, jamaa on aña be. Allah
 daali:

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّٰنِيَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾﴾ [الإسراء: 32]

"Wota on batto jeeno ngon, pellet, dun ko pankare e
 laawol bonungol". [Al Israa'i: 32].

Dum no sabu saakagol ñabbuuli yiidigal, jii-bitaydi fii renndo ngon.
 Nulaado Allah mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: "Bone

meedaali saakaade e yimbe haa be feññi mo, si wanaa ñabbuuli e ñawnaaje di be anndaano e mawbe e mabbe saakoto e mabbe".

Ko dum wadi si Islaamu yamiri uddugol kala date dawayde e dum; o yamiri juulbe ben hippugol gite, tawde ko naarugol ko harmi kon, duñata e jeeno. O yamiri rewbe ben kadi surragol e hijaabu e nefinagol, fii no be reenira renndo ngon e ñaṅkare. O rerđiniri sabu dum, resugol, wurin himo warjoo yiidigal resindirbe ben dido, fii no cuudi din ñiibira e teddungal, e mawnira needi faybe hannde ben, e mawbe janngo ben.

Sappo e go'o on: Ko ñaamugol ribaa

Ribaa bonnay fii jawdi, wona e huutorgol hatonjinayve e jawdi, foti ko yeeyoo maa hara baaso woni ko hatonjini e mun. Dum ko ñawlirgol jawdi haa e dumunna happaado, fii no beyditirora don seeda ka yobugol. Jonnoowo ribaa on huutora baaso hatonjindo e jawdi on, o ronnda mo ñamaale fawondirde, beydotoode e hoore-jawi ndi.

Jonnoowo ribaa on huura yeeyoowo maa tafoowo maa remoowo e kala dillinoowo faggudu on.

O huutoro ko be hatonjini kon e ceede, o fawa be yobugol ko burti, e hoore kobe farli e mum en te tawa be wonah kafa, be wona e dow bone sonto e perte.

Si on yeeyoowo perti, ñamaale den fawondira e makko, jonnoowo ribaa on daranoo mo. Hara le si tawno be kafu, gooto addi ko mari, wano Islaamu yamiriri, dum nawrayno faggudu ndun yeeso, renndo ngon nafitora.

Allah daali:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
 وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾﴾ [البقرة: 278-280]

"Ko onon yo ben gomdĩmbe! Hulee Allah, reenodon e ko heddii e ribaa, si wonii ko on gomdĩmbe. Si on wadaali dum, haray hebilanee hare immorde e Allah e Nulaado Makko on. Si on ruttike, hino woodani on ko'e jawle mon den. Wota on tooñu, wota on tooñe. Si o wonii ko sattiraado, haray ko habbagol haa (o) newiree. Ko nde sakkotodon non buri moy'yannde on, si tawno hidon anndunoo". [Al Baqarah: 278-280].

Sappo e didi on : Ko ndeereraaku e nguddam

Ko dum woni yidangol hoore-mun tun, nguddo on saloo yaltinnde jawdi makko ndin zakkah fii waasube e miskimbe, o saloo jon nondiral juude ngal Allah e Nulaado Makko on yamiri. Allah daali:

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ
 هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾﴾ [آل عمران: 180]

"Wata ɓen wuddirooɓe ko Allah okki ɓe kon e ɓural Makko sikku ɗum ko moyƴere wonande ɓe. Si ko woni, ɗum ko bone wonande ɓe. Ar-ma ɓe ɗannanoye ko ɓe wuddiri kon Ɗalnde Darngal. Ko Allah woodani ndonndi kammuuli ɗin e leydi ndin. Allah ko humpitiido ko golloton". [Al Imraan: 180] .

Sappo e tati: ko fenugol e seedagol fenaande

En ardiniino maaku Annabiijo on yo o his: "Fenaande hino fewna e bonki, bonki kadi no fewna e Yiite. Goddo seerataa himo fena o fenaande, haa o winndee fenoowo ka Allah".

Hino jeyaano e nooneji penaale ɗiɗaade : seedagol fenaande. Nulaado tiidinnno rentingol e ɗum, ɓe feɗɗinani sahaaba en konngol, ɓe maaki: "On accataa mi humpitano ko ɓuri mawnude e mawnudi ɗin? Ko sirkangol Allah, e yaggangol jinnaabe ɓen. Hari hiɓe sobbindii, ɓe toolii ɓe maaki: "Mi hadii on fenaande, mi hadii on seedagol fenaande". Ko non ɓe fillitori ɗum fii rentingol mofta ɗen yanugol e mun.

Sappo e nayi on : ko townitaare e haawitaare e hollitagol

Townitagol hollitagol, ko jikkuuji kaanudi, ɗiɗaadi e diina Lislaamu kan. Allah humpitii en wonnde O yidaa townitiibe ɓen. O daali fii mabbe ka laakara:

﴿... فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [الزمر: 60]

"Mbela wonaa ka Jahannama woni jaay'orde manintiniibe ɓen?". [Az-zumar : 60].

Townitiido haawitii hoore-mun, ko tikkanaado ka Allah, mo tagu Makko ngun aŋi.

c- Tuubugol e harmuɗi ɗin:

Dii bakkatuuji mawɗi harminaadi ɗi janti-den, hino waddi nde juulɗo kala rentotoo yanugol e majji, tawde kala ko nedɗo golli, o yobitooyte ɗum Ŋalnde Darngal : si ko moyyere, o yobee ɗum; si ko bone kadi, o yobee ɗum.

Si juulɗo arii yanude e sugu dii harminaadi, ko yo o yaccor tuubugol kisan, o ɗabbira Allah yaafuyee. Si tawii tun ko tuubuubuyee laabuɗo, haray ko yo o yaltu e junuuji ɗin, o nimsa e ko o wadi kon, o fiɓa wonnde o fillitotaako ɗum. Si o tooŋu godɗo, o toroo ontigi yaafuyee, haray o labbini tuubugol makko ngol, Allah jabanay mo, hara O lettataa Mo. Tawde mo tuubii e junuubi, hino wa'i mo faggitaaki junuubi.

Haray ko yo insinano Allah ko ɗuudi, wurin juulɗo kala hino haani duɗɗinnde insinangol Allah e palje ɗe o wadata ɗen, ɗuudi fandi. Allah daali:

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ [نوح: 10]

"Mi wi'i : "Insinanee Joomi mon, pellet, O siforii wonnde Haforoowo". [Nuuh : 10].

Duɗɗingol insinangol, tuubana Allah, ko jikku muumni en. Allah daali:

﴿قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾ [الزمر: 53-54]

"Maaku: "Ko onon yo jeyaabe Am fantimbe e hoore mun, wata on tay'o yurmeende Allah nden. Pellet, Allah ko haforoowo bakkatuuji din fow. Ko Kanko woni Haforoowo, Hinnotoodo On". Tuubee ruttodon ka Joomi mon, jebbilanodon Mo, ado lepte den arde e mon, hara on fabetaake". [Az-zumar: 53-54].

d- Tammbitagol juulbe ben sellude eggude

diina kan:

Nde tawnoo maakuuji Nulaado Allah on (yo o his) e golle mabbe den, e ko be deyya kon e mun fow ko bannginaydum daalol Allah ngol e yamaruyeeji Makko din e hadaadi Makko din ka diina Lismaamu, juulbe ben tammbitori eggugol hadiiseeji Nulaado on no mawniri, be tiidnii subugol suuta e din maakuuji, ko jeyaaka kon e majji, be bangini ko fennaa kon takka e mabbe; be wadani dum doose e njubudiiji waddiidi, haanaadi jokkiteede e jamaanu kala.

E yewtay doo ko rabbidi fii ngal ganndal Hadiise, fii no bannginiranen jangoowo on, kon ko diina Islaamu kan heerori e diinaaji heddiidi din, immorde e ko Allah newirani en reenugol diina no laabiri, hara ka jillaali penaale e fefindaare nder jamanuuji din kala.

Eggingol daalol Allah ngol e maakuuji Nulaado on (yo o his) ko e piiji didi tuugininoo, din woni:

Hunnjagol e winndugol. Ko juulbe arambe ben burunoo tiidude e hunnjagol maanditoo hakkee ko be laabunoo haqqille. Mo jannгии fii mabbe, o geloto dum, o humpitoo fii mabbe. Hari sahaabaajo si nanirii Nulaado maaku, o hunnjotono mo, ontuma o egginamo e hikkiibe don ben (taabi'iina en), ben kadi hunnjoo mo. Ko non dum jokkondiraynoo haa hewta e gooto e jannгube hadiise ben, on kadi hunnjoo mo, o mooba de e deftere, o jannгana nde taalibaabe makko ben, haa den defte hewtoya gire goo arooje, wonndude e callal hadiiseeje den (sanad).

Ko dum si tawii hadiise woo jabetaake e baawo callal makko ngal haa hewti e men.

Ko e ngal callal woni ko ganndal ngal kadi yalti, ngal juulbe ben kadi heertori e diya diinaaji, ngal woni ganngal worbe hadiise ben "Al-Jarh Wa Al-Ta'dil".

Ganndal kippungal fii anndugol fillotoobe hadiiseeje Nulaado on (yo o his), annda fii mabbe, taariika mabbe, jibineede be e faatagol mabbe, karamokoobe e taalibaabe mabbe, e no karamoobe hannde ben maandiniri fii mabbe, e no be digginiri hunnjagol, e hoolaare mabbe, e goongugol jeewte mabbe e kala ko yaadi e ganndal hadiise fii no tentinira sellugol hadiiseeje de befillotoo den, tippude e callal fillotoobe ben.

Ko ganndal non, ngal moftere islaam heerori fii reenugol maakuuji dammbeteedi din e Annabiijo on. Haa hannde woodaaka e taariika on, sugu ngal ganndal e tiidnaare mawnde himmiranaande maakuuji godoo, wano hadiiseeje Nulaado Allah hittiranaa non.

Ganndal mawngal, maandinaagl e defte himmiranaade fii fillayeeji hadiise dīn, janntiide fii fillotoobe ujune ujune, fii tun ko tawi kon be eggii maakuuji Nulaado Allah on (yo o his) e moftē hikkiide be. Yiltugol pade woo wadaali e ngal ganndal, wurin ko manndakke ngal sifori ka sedugol hakkunde goonga e fennade, maa hakkunde ko sellude weso mbo feni wi* e fenii mbo goongi wi* e goongii, mbo seli ndeenko wiye selli mo sellaani wiyeye sellaani, ko hono nih be wafani dūm doose de be anndira.

Hadiise sellataa ka mabbe, si wanaa hara callalal makko ngal hino jokkondiri, tawa fillii be ben hino sifori nundal e goonga, wonndude e semmbugol reende e tonngude.

A taway e ganndal Hadiise ngal kadi

Duudiraa callalal hadiise gooto, ka tawata hadiise eggete e Nulaado (yo o his) hara ko fillotoobe dūudube eggī mo e mabbe; hadiise gooto on heba tuunande didi maa tati maa nayi, e wonnde haa e tuugnande sappo, wonnde nden bura dūm.

Ko no sanaduujī dīn dūudiri woo, hadiise on hebirta doole, o sella dammbeede e Nulaado (yo o his). Hadiise mo hoolaabe burbe sappo fillii, hino wi'ee hadiise dūudirado (mutawaatir): ko on noone buri toowude e ko eggaa kon ka juulbe ben. Ko no fiyaaku on mawniri woo ka Islaamu (wano tugaale Islaamu den) ko non fillayeeji dīn dūudirta e mun. limtina tuugnande habroovbe, nde nyaawoore nde woni e cate fof e jidaade tuugnorde habroobe bura famdude hiimmireede mum kadi burai lo'ude.

Ko buri mawnude e ko fillayeeji dī juulbe ben hittini fii mun, ko sedugol eggannde Alqur'aana nden. Be hittiniri no mawniri fii winndugol e hunnjagol nde, e nyeenyxude konngi e yaltirde karfe e

laabi jande, Ko ujune ujune fillotoobe woni ko eggì nde gire gire, ko dum wadi si tawii nde meedaali wayleede maa wattiteede. Deftere janngeteende nden hiirnaange, ko nden kadi janngetee fudnaange; ko nden woni nokku kala e leydi ndin. Ko dum goongini ko Allah kon wiide:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]

"Menen Men jippinii Deftere nden, ko Menen kadi woni reenoobe nde". [Al Hijr: 9].

e– Ka timmoode

Haray ko dum woni diina Islaamu, feññin ka bajjindingol Allah. Hika anndiree: "La ilaha illa Allah". Ko dum woni diina Islaamu ka Allah welanaa jeyaabe Makko ben diina.

﴿... أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ...﴾ [المائدة: 3]

"Hannde timminan Mi on diina mon kan, Mi timminii e dow moodon neemaaji Am din, Mi welanaama on Lislamu on diina". [Al Maa'ida : 3].

Ko dum woni diina Islaamu mo Allah jabantaa gooto si wanaa kaa doo.

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخٰسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85]

"Kala dabbudo ko woori Lislamu on diina, o jabaŋtaake dūm, on don ka laakara, ko o jeyaado e hayruɓe ben". [Al Imraan: 85]

Ko dum woni diina Islaamu, mo tawata gomdindo mo woo, o golli golle moyye, on don jeyete e maloobe ben ka Aljannaji neema.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوْلًا ﴿١٠٨﴾ [الكهف: 107-108]

"Pellet, ben gomdimɓe ɓe golli moyyi din, laatanto ɓe Aljannaaji firdawsi werde. Ko ɓe duumotoobe nder ton, ɓe dabbataa gaayi makko waylitorde". [Al Kahf: 107-108].

Ko dum woni diina Islaamu. Wanaa ko wodɓe tun heertorta, kala gomdindo, o noddi yime ben e mun, ko on buri hanndude e makka, ko on kadi buri teddude ka Allah.

﴿... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾ [الحجرات:

13]

"Pellet, ɓurɓe teddude e mon ben ka Allah, ko ɓurɓe gomɗude ben e mon". [Al Hujraat: 13].

Heddii yo en finndinir janngoowo teddudo on, tobbe himmude, wonde fslaade yimbe ben naaugol e kaa diina, den woni:

1- Ko majjeede fibnde e sari'a e neediiji Islaamu dīn : hino anndaa non yimbe ben ko anybe ko be majjaa kon. Ko dum wadī si tawii kala himmirdo Islaamu on hino haani ka janngata, o jangga, o jangga kadi, refti o jangga haa o annda bullitirde diina asli kan. O janngira fii waasde heedande hay gooto nundudi widagol dabbita goonga kan.

2- Ko habbitagol e diina maa aada maa pine de neddo on mawni e mun, ko aldaa woo e taskagol, luggina miijo, annda si ko o woni e mun kon no selli. O wona don e habbitagol e naamuuji, o saloo kala diina ko wanaa diina mawbe ben. dum muurna gite sukka noppi, udda hakkille hara ontigi dabbataa senndugol hakkunde nibe e annoora.

3- ko mbeleede e tuuyooji woni dīn : dīn kadi jogitoto miijo e muuyeede ngon haa ngo murta o yirba, neddo on salora goonga e jebbilaare nden no o andiraa.

4- palje e ooñande juulbe goo, dammbaybe penaale e diina Islaamu ben : hara non Islaamu no dadndii e dum. Yo fow anndu wonde Islmaau lamnditortaake ooñande yimbe ben.

Hino jeyaa e date burde newaade anndugol goonga kan, nde neddo on fewtinirta bernde makko nden e Allah, o ruttoo e Makko, o toroo mo feewugol e laawol focciingol ngol, e diina ñiibuka kan, diina ka Allah welaa kan, o toroo hebugol nguurndam newii dam, e maloore duumotoonde, nde malkiseede aratahj caggal mayre. O fellita wonde Allah jaabinanay mo, si wonii o torike Mo. Allah daali:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ﴾

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿٧٦﴾ [البقرة: 186]

"Si jeyaaɓe Am ɓen lamndike ma fii An, haray ko Mi ɓadiidɔ. Midɔ jaabina toraare torotoodɔ, si o torike Lam. Yo ɓe nooto Lam, ɓe gomɗina Lam. Belajo'o ko ɓe feewoya". [Al-Baqarah: 186].

Nde timmirii yettude Allah.

Contents

Hunorde.....	4
1- Konngol Tawhiid (La Ilaha Illa Allah).....	10
2- Muhammadu ko nulaafo Allah:	25
3- Muhamadu Nelaado Alla woni timmorde Annabaabe e Nelaabe.....	69
4- Tugaale Islaamu den:	87
5- Tugaale gomɗinal ngal:.....	92
6- Tinndinooje e jikkuuji Lislamu ɗin:.....	104
Contents	141